

الله



جلد چودہ



پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکرِ اسلام

● اللہ تعالیٰ سے جنوں تعلق

● محبوب کل جہاں

● ایمانی زندگی کے قاضے

● اعمال صالح اور بقینی کامل کے ثمرات

● دنیا کی حقیقت

● تقویٰ کے ثمرات

حضرت مولانا پیر دو الفقار احمد فشنبدی ناظم

223 سنت پورہ فضیل آباد

+92-041-2618003

مکتبۃ الفقیر

جلد ۱۲

# خطاب فقیر

از افادات

محبوب العلماء والصلحاء

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

مُجددی تلخیم

ڈاکٹر شاہ محمود غوث

مرتب



041-2618003

مکتبہ الفقیر  
223 سنت پورہ فیصل آباد

ناشر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

خطبات فقرہ (جلد ۱۷)

نام کتاب

حضرت مولانا پیر والفقیر احمد نقشبندی بخاری  
از افادات

ڈاکٹر شاہد محمود غفرانی  
مرتب

مکتبۃ الفقیہ  
ناشر  
223 سنت پورہ فیصل آباد

اشاعت اول ۲۰۰۸ء

اشاعت دوم ۲۰۰۹ء  
جنوری


اشاعت سوم ۲۰۰۹ء  
مسی

اشاعت چہارم ۲۰۰۹ء  
مسی ۲۰۱۰ء

تعداد 1100

سرور ق حافظ انجم محمود

کمپیوٹر کمپوزنگ  
ڈاکٹر شاہد محمود غفرانی



# فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
31	دل کی زبان	11	عرض ناشر
32	دل کا کام	13	پیش لفظ
33	اعضاء کی لذات	17	<b>① اللہ تعالیٰ سے جنوںی تعلق</b>
33	آنکھ کی لذتیں	17	محبت کا شجع
34	ناک کی لذتیں	17	محبت کیسے ہوتی ہے؟
34	زبان کی لذتیں	18	محبت کا فطری جذبہ
35	پوشیدہ اعضاء کی لذتیں	20	عشق اور رُفق
35	دل کی لذتیں	20	ماہرینِ نفسیات کے فلسفہ ہائے حیات
36	قانونی تعلق	21	کارل مارکس کا نظریہ
37	جنوںی تعلق	21	الفرید ایڈل کا نظریہ
38	آج کے مسلمان کی حالت	21	فرائید کا نظریہ
39	اللہ سے جنوںی تعلق مطلوب ہے	22	اسلامی نظریہ
40	محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے	22	سائنسدانوں کا دھوکہ
41	اللہ کے ذکر سے مومن کا دل تڑپتا ہے	23	چ کیا ہے؟
42	ایک بیمار عشق کا داقعہ	24	محبت کی حقیقت
43	اللہ ذکر سے مومن کی بخش تیز ہو جاتی ہے	25	محبت الہی کی شیرینی
43	خلافت قرآن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی	26	عشق کی دکانیں اور عشق کی پڑیا
44	تماز..... اللہ تعالیٰ سے ملاقات	27	ایمان کی شرط
46	موت..... تختہِ مومن	28	دل اور دماغ کا فرق
			سات زبانوں میں اشعار

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
67	حیمه سدیہ کی پر کیف لوری اعلان نبوت سے قبل آپ ﷺ کی تکریم	47	عقلی دیدار
69		48	محبت الہی کا حصول
70	دل کا سودا کرنے والے	48	(۱) طلب صادق
71	عرب کا چاند	49	(۲) موت کی یاد
71	دیدار پر انوار کی رُتبہ	50	(۳) انعامات باری تعالیٰ کا استحضار
72	ان کے چاہنے والے ایسے بھی تھے	51	(۴) اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا
73	صدیقہ کائنات کی لازوال محبت	51	(۵) اللہ کی راہ میں خرچ کرنا
74	شاعر رسول در درج جمال رسول	52	(۶) صدر جمی
74	جمال مصطفیٰ امام بومیریؒ کی نظر میں	53	سمچاوت والی محبت
75	جنادات کے محبوب	53	اللہ کو تمنی محبت ہے؟
76	نباتات کے محبوب	53	محبت الہی ..... زندگی کی گاڑی کا پروول
77	حیوانات کے محبوب	55	محبت الہی کیلئے مناجات
77	انسانوں کے محبوب	59	۲ محبوب کل جہاں ﷺ
78	زندگی کی آخری تمنا	61	ایک آئندہ میل مختسبت
78	محبوب ﷺ کی شاہست کی تمنا	62	دعائے ابراہیمی جہنم کے مصادق
79	سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی نبی ﷺ سے انتہا درج کی محبت	63	ولادت نبوی ﷺ کے وقت میں
86	حضرت اسماءؓ کے دل میں محبوب خدا کی محبت	63	حکمت
88	ایک صحابیہ کی محبت	64	کراپی جمل کے سفرے توئینے میں راز
88	واقدہ حس نے صحابہ کرامؐ کو تزیادیا	65	والد ماجد کی وفات میں حکمت
90	محبوب خدا ﷺ کی محبت بھری دعا	65	دوران حمل برکات کا ظہور
			حیمه سدیہ کے آنکن میں رحمتوں کی بکھیر

107	حسن و جمال کے ساتھ نمائش	93	۲) ایمانی زندگی کے تفاصیل
107	انسان کی ذمہ داری	95	مؤمنوں کو ایمان لانے کا حکم
108	انسانی زندگی کے دوران	96	تصدیق بالقلب کا مطلب
108	دنیا میں بالآخر کھونا ہی ہے	97	عمل دل کی حالت کا آئینہ دار ہے
	جب تک انسان مٹنے میں کامل نہیں ہو	98	بناولی خوف
109	سکتا	99	مومن اور غیر مومن میں فرق
	انسان کی روحانی قوت جنوں سے		مومن بن دیکھے مانتا ہے، کافر دیکھ کر
110	بڑھ کر	99	مانتا ہے
111	انسان کی بڑی غلطی		مومن بخوبی مانتا ہے، غیر مومن مجرما
112	دوزخی اعمال سے جنت کی تلاش	99	مانے گا
113	موت کو یاد رکھو		پروز قیامت کافر کو حسرت ہو گی ،
114	اعمال کی سنجیاں	100	مومن مصروف ہو گا
114	جنت کی سنجی	101	انسان کی قیمت
114	غماز کی سنجی	101	پروردگار کی عظمت
115	نیکی کی سنجی بچ بولنا	102	انسان کی اوقات
116	علم کی سنجی "حسن سوال"	103	ایمان والا انسان اللہ کا دروست ہے
116	اللہ کی مدد کی سنجی "مری"	103	انسان صفاتِ الہیہ کا مظہر ہے
117	محبتِ خدا کی سنجی "مشکر"	104	انسان ایک نو خیز کل کی مانند ہے
118	ولادت کی سنجی "ذکر"	104	انسان کے نامطلوب اوصاف
118	فلاح کی سنجی "ستوی"	105	افتدار کے ساتھ تکبیر
119	رزق کی سنجی "اخلاق"	105	دولت کے ساتھ بخل
119	خیر و برکت والے اعمال	106	علم کے ساتھ حسد
119	وضمومیں عمر کی برکت	106	شهرت کے ساتھ ریا کاری

عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
ذکر و فکر میں وقت گزاریں پر سکون غمازوں کی کوشش کریں تحمید کی پابندی کریں چمچی توبہ کریں محض و صیغہ میں اللہ کسی کی محنت کو رایگاں نہیں کرتے قویت بڑی نعمت ہے قویت کے لیے دعائیں <b>(۱) شیخین کا حلقہ اور اعمالِ صالح کے ثمرات</b>	سلام میں گھر کی برکت اہل اللہ سے نسبت نبی علیہ السلام کا ساتھ پانچ بندوں کی ذمہ داری (۱) اللہ کے راستے میں نکلنے والا (۲) مریض کی عیادت کرنے والا (۳) صبح و شام مسجد میں گزارنے والا (۴) امام کا معاون (۵) کسی کا برائیہ چاہئے والا	120 120 120 121 121 121 121 122 122 123 124 124 124 125 125 125 125 125 126 127 127 130 136 136 138	سلام میں گھر کی برکت اہل اللہ سے نسبت نبی علیہ السلام کا ساتھ پانچ بندوں کی ذمہ داری (۱) اللہ کے راستے میں نکلنے والا (۲) مریض کی عیادت کرنے والا (۳) صبح و شام مسجد میں گزارنے والا (۴) امام کا معاون (۵) کسی کا برائیہ چاہئے والا
ہر انسان کی خواہش اعمال کے اثرات غمازوں اور فلاح ذکر اور طمینانی قلب روزہ اور تقویٰ رج اور اور مغفرت اعمال کی طاقت کا یقین اعمال بنانے اور بگاؤنے کا نتیجہ رجوع الی اللہ کا نتیجہ اعمال بنانے پر دخوشخبریاں اعمال بگاؤنے پر دو عذاب اپنی ذات پر محنت کی ضرورت دوسروں کے بارے میں حسن غلن، اپنے بارے میں گھر مدد	پانچ آنکھوں پر جہنم حرام اللہ کی راہ میں جائیں والی آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہونے والی آنکھ خوف خدا سے روئے والی آنکھ غیر محرم سے رکنے والی آنکھ اللہ والوں کو محبت سے دیکھنے والی آنکھ پانچ کاموں میں جلدی کرو! پرندوں کا ہجراہ یا جانوروں کا اصطبل تصوف و سلوک کی محنت کا مقصد تصوف، اکابر کے اقوال کی روشنی میں نور و لایت کی نشانیاں منصور حلاج اور فرعون میں فرق زندگی کی ترتیب سیدھی کریں اجماع کیلئے ہدایات	124 124 124 125 125 125 125 125 125 126 127 127 130 136 136 138	پانچ آنکھوں پر جہنم حرام اللہ کی راہ میں جائیں والی آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہونے والی آنکھ خوف خدا سے روئے والی آنکھ غیر محرم سے رکنے والی آنکھ اللہ والوں کو محبت سے دیکھنے والی آنکھ پانچ کاموں میں جلدی کرو! پرندوں کا ہجراہ یا جانوروں کا اصطبل تصوف و سلوک کی محنت کا مقصد تصوف، اکابر کے اقوال کی روشنی میں نور و لایت کی نشانیاں منصور حلاج اور فرعون میں فرق زندگی کی ترتیب سیدھی کریں اجماع کیلئے ہدایات

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
170	اللہ پر ایمان کی حقیقت	156	نیکوں اور بروں کے حالات میں فرق
171	پہلے مجرے کا مقدر	158	فتح ابواب اور فتح برکات
172	دوسرا مجرے کا مقدر	159	آزمائش، مومن اور قاسی دوں پر
173	رزق اللہ کے ہاتھوں ہے	160	عبادت میں سستی کا نتیجہ
174	امید فقط اللہ سے	161	بسم اللہ کی برکت سے شیطانی اثرات سے حفاظت
174	بچے کی مثال		
175	ماں کنا غیر سے مٹھوے اللہ سے	161	کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا
175	فرشتتوں پر ایمان کا مطلب	162	بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کرنا
176	کتابوں پر ایمان کا مطلب	162	بسم اللہ پڑھ کر بیت الحلا جانا
176	رسولوں پر ایمان کا مطلب	163	کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا
177	روز آخرت پر ایمان	164	بسم اللہ پڑھنے کی عادت ذاتیں
178	قضا و قدر پر یقین کا مطلب	165	روز محشر اعمال کام آئیں گے
178	موت کے بعد کھڑے ہونے کا یقین	165	اچھی طرح وضو کرنا کام آئے گا
178	آج ایمان ہانے کی ضرورت ہے	166	ذکر کام آئے گا
179	ایمان والے کا حکم کردہ ارض پر چلتا ہے	167	نماز کام آئے گی
180	امت محمدیہ کی فضیلت دوسری امام پر	167	روزہ کام آئے گا
186	اپنی ذات پر محنت کی ضرورت ہے	167	حج و عمرہ کام آئے گا
186	تین باتیں ..... لوہے کی لکیر	168	صلوٰۃ رحمی کام آئے گی
188	اللہ کے وعدوں کا یقین	168	صدقة خیرات کام آئے گا
188	لینے والا حراج	168	خوف خدا کام آئے گا
188	دینے والا حراج	169	درود شریف کام آئے گا
189	سچی توبہ کا اعجاز	169	کلمہ کام آئے گا
190	علمی نکات	169	اچھے اخلاق کام آئیں گے
		170	ایمان مفصل ..... ایک عہد، ایک وعدہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
210	حق و باطل کی کملی نشانیاں	192	توبہ کے لیے جامع دعا
211	انسان میں حق و باطل کی تھنی جنگ	192	چار انعامات
212	مشی سے مانوسیت	195	ماسترپیس کیسے ہوتے ہیں؟
212	قراءات کی انتیا پر فضیلت	198	⑤ دنیا کی حقیقت
213	قراءات سے دوستی کا فائدہ	199	سر آختر کے مسافر
213	شند انس اور سو سال کی عبادت	199	دنیا امتحان گاہ ہے
214	ایک گناہ گار اور ایک عابد کا اتحام	200	دو قسم کے گناہ
215	غیر بُک کی آمد سے ڈر	200	نکبر ایشی گناہ
216	بڑے بوجھو والے لوگ	201	نفس کو مارنے کا مطلب
217	مالدار یا مال کے چوکیدار	202	دنیا کی زندگی ایک سکھل تھا شہر ہے
217	عزت والا کون؟	203	دنیا کیا ہے؟
218	اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں	203	دنیا کی طالب کے
218	اخلاص کی کمی پر اجر کی کمی	204	کئے سے تیبیہ کی وجہ
219	وزن اعمال کی سانسی توجیہ	205	آخرت دنیا پر مقدم ہے
221	اجتیح کا بینادی مقصد	206	دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب
221	اجتیح میں وقت کیسے گزاریں	207	علم کے یار
222	چنے ہوئے لوگوں کا جمع	207	دنیا کی حقیقت
223	اپنے وقت کو قیمتی بنائیں	207	فقیری کا مرا شاہی میں نہیں
224	ازلی دشمن سے ہوشیار!!!	207	اللہ والوں کے خادم
225	⑥ تقویٰ کے ثمرات	208	اللہ والوں کی حکومت
227	شبہ والی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم	209	صریح جیل اور بھر جیل
228	پروردگار عالم کی وحیت.....!!!	209	دنیا خدا دین کا مجموعہ ہے
229	ولایت کے درجات	210	موت کا وقت مشکل ترین وقت

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
(۸)۔ اصلاح احوال	229	تقویٰ۔ اکابرین کی نظر میں	
(۹)۔ اعداء سے حفاظت	232	تقویٰ۔ قرآن مجید کی نظر میں	
خدائی فوج کا پہرہ	234	تقویٰ کے فوائد و ثمرات	
تمی رحمت ملکیت کے ڈننوں کا کمر	234	(۱)۔ تغیر سیجات	
گناہ۔۔۔ کمزوری کا چیل خسرو	235	(۲)۔ اعظام اجر	
چیزوں سے باز مرداویے	237	(۳)۔ اعطائے فرقان	
اسباب کے بغیر فتح دکام رانی	237	ولادت سے پہلے جیٹ کی خبر	
ایک سانپ۔۔۔ تریاق کی شکل میں	238	خواب نے بغیر تعبیر	
(۱۰)۔۔۔ اخروی نجات	239	بد نظری کا فوری اور اک	
(۱۱)۔۔۔ فتح برکات	239	فراست مومن کا مطلب	
برکت کا نقدان	240	تمہارے گھر میں سور کیسے۔۔۔	!!!
(۱۲)۔۔۔ اعطائے تحویلت	241	چالیس دن میں القاء نسبت	
فقہ ختنی کی تحویلت اور اس کا راز	241	انگوروں سے مردوں کی بدبو	
بخاری شریف کی تحویلت کا راز	242	یہ علم غیب نہیں	
منہ توڑ جواب	243	(۴)۔ اخراج من افسق	
قرآن مجید کی خدمت کا صلہ	243	حاسدین کے خلاف خدائی مدد	
قرب خداوندی کا سبب	246	تا مساعد حالات میں خروج کارستہ	
احسن اقصص اور اس کے اسرار و موز	247	(۵)۔ رزق بے حساب	
آج امت بے سہارا ہے مگر۔۔۔	248	نوٹوں سے بھرا سوت کیس	
احتیاط تقویٰ بھی ہے مگر۔۔۔	249	ہلوں سے رزق کا انظام	
تقویٰ کا دائرہ کار	250	والدین کی خدمت کا انعام	
دنیا کی چیک پوسٹ میں پوشیدہ ایک ستر	251	(۶)۔۔۔ معیت الہی	
✿✿✿✿✿	251	(۷)۔۔۔ محبت الہی	

## عرض ناشر

محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی  
 دامت برکاتہم کے علوم و معارف پرمی بیانات کو شائع کرنے کا یہ سلسلہ خطبات  
 فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق 1417ھ میں شروع کیا تھا اور اب یہ  
 تیرہ ہوئے جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شایین کی پرواز ہر آن بلند  
 سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت دامت  
 برکاتہم کے بیاناتِ حکمت و معرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک  
 نئی پرواز فکر آئینے دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ و رانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریر یہی نہیں  
 ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جو الفاظ کے سانچے میں ڈھل  
 کر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر

میری نوائے پریشان کو شاعری نہ کجھ  
 کہ میں ہوں محرومِ راز درون خانہ

”خطبات فقیر“ کی اشاعت کا یہ کام ہم نے اسی نیت سے شروع کر کھا  
 ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کو فکر مند کیا جائے اور انہوں  
 نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موئی اکٹھے کر کے ہم تک پہنچائے

ہیں، انہیں موتیوں کی مالا بنا کر عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے جو ان شاہزادی سلسلہ دار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ خطبات کو ایک عام کتاب سمجھ کر نہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتیوں کی مala ہے جن کی قدر و قیمت اہل دل ہی جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت، ذہانت و فطانت اور حلاوت و ذکاؤت کا فقید الشال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو محظوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کمی یا کوتاہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجویز رکھتے ہوں تو مطلع فرمائے کہ عند اللہ ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تازیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ جاریہ بنا کیں۔ آمین۔ بحر مرت سید المرسلین ﷺ

فَاكْرُ شَاهِ مُحَمَّدٍ لِّقَبْنَدِي  
خادم مکتبۃ الفقیر فیصل آباد



الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْتُمْ اَمَا بَعْدًا

فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا پیر غلام جبیب نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونپی تو ابتدائیں چند دن اپنی بے بُناعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا، لیکن حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا، چنانچہ فرمایا کہ بھی تم نے اپنی طرف سے اس کام کو نہیں کرنا بلکہ اپنے بڑوں کا حکم پورا کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ مزید فرمایا کہ جب کبھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نصیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ نے وعظ و نصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، حلقہ بڑھتا رہا اور الحمد للہ شرکاء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی عاجز خود بھی دیکھتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چہار اطراف سے بیانات کے لیے دعوییں آنے شروع ہو گئیں۔ شیخ کا حکم تھا، سرتاہی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعویت ملی رخت سفر باندھا اور عازم سفر ہوئے۔ اس کثرت سے سفر ہوئے کہ بعض اوقات صحیح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کو محلہ بنادیا۔ اس ناتوال میں یہ ہمت کہاں؟ مگر وہ جس سے چاہیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شنخے

”قدم اٹھتے نہیں اٹھوانے جاتے ہیں“

حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے شیخ کی دعا ہے اور اکابر کا فیض ہے جو کام کر رہا ہے،  
و اما بنعمة ربک فحدث -

بیانات کی افادیت کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے  
ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت  
کی ذمہ داری انھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبروار پر ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ  
عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علماء طلباء  
نے کافی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

اس کتاب کے مطالعے میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی باقاعدہ  
تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود  
ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی ویکھیں تو  
اصلاح فرم اکر عند اللہ ماجور ہوں۔

دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشش ہیں اللہ  
تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور  
اپنا مشاہدہ نصیب فرمائیں اور عاجز کو بھی مرتبے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے  
قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین

دعا گو و دعا جو

فقیر زوال فقار احمد نقشبندی مجددی

کان اللہ له عوضا عن کل شیء



﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾

(البقرة ١٦٥)

## اللہ تعالیٰ سے جنوں تعلق

یہ بیان 2004ء کو مسجد الفقیر الاسلامی جھنگ میں سالانہ نقشبندی اجتماع کے موقع پر ہوا، جس میں حضرت اقدس کے خلفاء اور اندر وون دیر وون ملک سے ہزاروں مریدین شریک تھے۔

## اقتباس

اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ  
میرے بندے کو مجھ سے جنوںی تعلق ہونا چاہئے۔ اور یہ بات  
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مخبر صادق، اللہ کے پیارے  
محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر بتائی اور فرمایا:

أذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ مَجْنُونٌ

[تم اللہ کا ذکر اتنے کرو حتیٰ کہ لوگ کہیں کہ یہ تو

مجنون ہے]

تو اللہ تعالیٰ بندے سے جنوںی تعلق چاہتے ہیں۔ اور پھر جب  
جنوںی تعلق ہوتا ہے، تو پھر فرض پڑھ کر مزہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر  
واجب بھی، سنتیں بھی، مستحبات بھی، فرض کے بعد مسجد  
میں مرائبے میں بینخنے کو بھی دل کرتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## اللہ تعالیٰ سے جنوں کی تعلق

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَيْتَ أَمَّا بَعْدًا  
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 إِنَّمَا الْمُرْءُ مُؤْمِنٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ  
 أَيَّاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (الأنفال: ۲)  
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى  
 الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

**محبت کا نیچ:**

محبت کا لفظ بعض علماء کے نزدیک حب سے انکا ہے۔ حبہ کہتے ہیں نیچ کو اور سب  
 جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی نیچ کو مناسب زمین مل جائے ماحول مل جائے تو وہ  
 پھلتا پھولتا ہے اور پھل پھول نکالتا ہے۔ اسی طرح محبت کا جذبہ ہر انسان کے اندر  
 فطری طور پر موجود ہے۔ یہ نیچ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یوم یثاق میں رکھ  
 دیا تھا۔ یوم یثاق اس دن کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے ایک عہد  
 لیا۔ اللہ ہر ہمکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا: قَالُوا  
 مَلَىٰ اے پروردگار! آپ ہی ہمارے رب ہیں۔

**محبت کیسے ہوتی ہے؟**

محبت دو وجہات سے ہوتی ہے، کبھی دیکھنے سے اور کبھی بات کرنے سے۔ دیکھنا

بھی محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور کلم بھی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لئے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تمنہ ظاہر نہیں کی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا:

**رَبِّ أَرْبَعَةِ أَنْظُرْ إِلَيْكَ** [اے پروردگار! میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں]

تو سب انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر ایسا کیوں کہا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مکیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دیکھ کرتے تھے اور جب بھی کس سے ہم کو دیکھ کر تو اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ گویا کلام، محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اگر دیکھ لیا جائے تو پھر محبت رائخ ہو جاتی ہے۔

یہ دونوں نعمتیں انسان کو اسی دن مل گئیں۔ جس دن کلمہ عیان نے ساری روحوں کے سامنے اپنی تجلی ڈالی، بغیر کسی نقاب اور حجاب کے۔ بے نقاب تجلی جب روحوں پر پڑی تو ان کو دید نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ بریکم کے ذریعے ہم کلام فرمائی۔ تو تمام روحوں کو یہ دونوں نعمتیں اس دن مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جمال دکھا کر سوز عشق عطا کر دیا اور اپنا کلام فرمادیا۔ یہ دونوں نعمتیں انسان کو مل گئیں۔ کیف علم بھی ملا اور سوز عشق بھی ملا۔

### محبت کا فطری جذبہ:

تو فطری طور پر ہر انسان کے اندر محبت کا نیچ موجود ہے۔ اسی لئے ہر انسان فطری طور پر حسن و جمال کا قدر روان ہے... اچھا منظر دیکھیں گے، اچھا لگے گا، اچھی عمارت دیکھیں، اچھی لگے گی، خوبصورت درخت دیکھیں، اچھے لگیں گے، خوبصورت شخصیت دیکھیں، اچھی لگے گی، کسی چیز میں بھی حسن و جمال ہوگا تو انسان کا دل اس کی طرف کھنپنے لگا یا ایک فطری سی چیز ہے۔ اسی کو شعراء نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ کسی نے تو یوں کہا:

بس ایک بجلی پہنچے کوندی  
 پھر اس کے آگے خیر نہیں ہے  
 مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں  
 تو دل نہیں ہے ، جگر نہیں ہے  
 اللہ تعالیٰ نے جو بجلی ڈال دی تو بندے سے دل لے لیا۔ ہر بندے کے دل میں  
 یہ محبت کا شیخ ڈال دیا۔ چنانچہ کسی نے کہا:

— شایدہ بزم ازل میں اک نگاہ ناز سے  
 عشق کو اس ابجمن میں آشکارا کر دیا  
 اک نگاہ ڈال دی اور مخلوق کے اندر محبت کا یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک شاعرنے  
 کہا:

— ازل سے حسن پرستی کمی تھی قسمت میں  
 میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے  
 کسی نے کہا:

— پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے  
 کیا جانیں ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے؟  
 (کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اس کے جگر پر ہوتے ہیں)  
 کسی نے یوں کہا

— میری طفیلی میں شانِ عشق بازی آشکارا تھی  
 اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا  
 اور ایک شاعرنے اس کو یوں کہا:

— کہیں کون و مکان میں جو نہ رکھی جاسکی اے دل!  
 غصب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل تھی

[وَ عُشْقُ كِيْ چنگاری جو کون و مکان میں کہیں نہیں ساتھ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس عشق کی چنگاری کو میرے دل کی منی میں شامل کر دیا]

### عشق اور فرق:

چنانچہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ اور بات ہے کہ خالق کا عشق ہو یا مخلوق کا عشق ہو۔ خالق کا عشق ہوتا وہ نور ہو گا اور مخلوق کا شیطانی، نفسانی، شہوانی عشق ہو گا تو اسکے اندر ظہرت ہو گی۔ خالق کا عشق نیکی ہے اور مخلوق کا عشق جو نفسانی اعتبار سے ہو وہ گناہ ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کو عشق کہنا چاہئے اور مخلوق کے نفسانی تعلق کو فرق کہنا چاہئے۔ یہ عشق نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے۔

— پھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو

آتا نہیں ہے جیسی محبت کے بغیر

اور ایک شاعر نے کہا:

— دل بحرِ محبت ہے محبت یہ کرے گا

لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا

جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو اے بندے! کیوں نہ اپنے پروردگار سے محبت کر لو۔ مخلوق سے محبت کرنے کا کیا نتیجہ لکھے گا کہ ایک دن بالآخر اس سے جدا ہو جانا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس انسان نے مخلوق سے دل لگایا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جس انسان نے اللہ رب العزت سے دل لگایا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔

### ماہرینِ نفیات کے فلسفہ ہائے حیات:

دنیا کے سامنہ دانوں نے، ماہر نفیات لوگوں نے انسان کی نفیات کا مطالعہ

(Study) کرنے میں پوری پوری زندگی گزار دی۔ دنیا میں بڑے معروف اور نامایاں قسم کے ماہر نفیات گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی مختتوں کا نچوڑ نکالا یہ اور بات ہے کہ وہ تھیک تھا یا غلط تھا۔

### کارل مارکس کا نظریہ:

مثلاً کارل مارکس نے اپنی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ یہ نکالا کہ انسان کی زندگی کے اعمال کا محرک اس کا کھانا پینا ہے۔ اس نے روٹی پانی کو انسان کے اعمال کا محرک قرار دیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال روٹی پانی کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ سارا کاروبار جو نظر آتا ہے، یہ دنیا کا جو بازار سجنظر آتا ہے یہ سب روٹی پانی کا چکر ہے۔ چنانچہ اس نے روٹی پانی کو انسان کے تمام اعمال کا محرک اور مرکز قرار دیا ہے۔

### الفریڈ ایڈلر کا نظریہ:

ایک اور ماہر نفیات افریڈ ایڈلر نے کہا کہ جذبہ تفوق (دوسروں پر فویت حاصل کرنا) انسان کے تمام اعمال کا مرکزی نقطہ ہے۔ انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ بڑائی چاہتا ہے، وہ دوسروں سے Superiority (برتری) چاہتا ہے۔ وہ دوسروں پر مکمل اختیار چاہتا ہے، تو اس نے جذبہ تفوق کو انسانی اعمال کا محرک قرار دیا ہے۔

### فرائید کا نظریہ:

ایک تیرسا سائنسدان فرائید تھا۔ اس نے جذبہ جنیات کو انسان کے اعمال کا محرک قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جی نہیں، روٹی پانی ایک طرف، اصل میں تو انسان کے اندر جسی خواہشات کے مزے لوٹنے کی اتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ تمام دنیا کا کھیل اسی کے گرد کھیلا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت میاں بیوی بنتے ہیں، اپنے اسی جذبہ جنیات کو پورا کرنے کی خاطر اور چونکہ اولاد ہو جاتی ہے تو باقی ذمہ داریاں ان

کے پے پڑ جاتی ہیں۔ اس نے جنیات کو انسانی زندگی کا مرکز اور محور قرار دیا ہے۔

### اسلامی نظریہ:

دین اسلام نے آکر بتایا کہ لوگوں تمہیں دھوکہ ہوا، تمہیں بھول ہوئی، تم اندر ہیرے میں نامک ثویاں مارتے پھرے، تم نے ہاتھی کے پاؤں کو ستون سمجھ لیا، تم نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کی لیکن عقل چونکہ ادھوری تھی اس لئے وہ پوری بات کو سمجھنے سکی۔ دین اسلام نے محبت الہی کو تمام اعمال کا محرك قرار دیا۔ اس سے اگر آپ غور کریں تو دنیا کی اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں۔ ایک خدا کو مانیں یا سینکڑوں خدا کو مانیں، خدا کو مانتے ضرور ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے بھی ۳۶۰ بست رکھے ہوئے تھے۔ روز کا نیا خدا، کوئی لکڑی کا خدا، کوئی پتھر کا خدا، کوئی لوہے کا خدا، کوئی موٹا خدا، کوئی چھوٹا خدا، سب جھوٹے خدا۔ مگر خدا کا تصور ان کے ذہن میں بہر حال تھا۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، یہسائی ہیں یا ان کے علاوہ ہندوؤں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، بدھ مت کو دیکھو سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں خدا کے تصور کو مانیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس کو ”اللہ“ کہا اور ہندوؤں نے اس کو ”رام“ کہا، مگر کسی نہ کسی بڑی ذات کو مانتے ضرور ہیں۔ اپنی مصیبت میں کسی نہ کسی کے سامنے دامن پھیلانے کھڑے ضرور ہوتے ہیں۔ جب دریا میں کشتی ڈوبنے لگتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ذرا پوچھو ان سے! یہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہ جس کو پکارتے ہیں وہی ان کا پروردگار ہے۔

### سامنہ دنوں کا دھوکہ:

لیکن چونکہ دنیا کے سامنہ دنوں نے حقیقت کو نہ سمجھا اس لئے انہوں نے دھوکہ کھایا، ٹھوکر کھائی۔ عقل کے اوپر جو بھی بنیاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بننے گا نا پائیدار ہو گا  
 چنانچہ کفر نے جب دیکھا کہ انسانی اعمال جنسیات کی وجہ سے ہیں یا روتی پانی  
 کی وجہ سے تو انہوں نے مخلوق کو اسی نظام کے پیچھے لگا دیا، مگر جو فطری جذبہ ان کے  
 اندر رہتا، وہ کھا، پی کر بھی پورا نہ ہو سکا، وہ اپنے جنسی تقاضے کو پورا کر کے بھی پورا نہ  
 ہو سکا۔ اس لئے کہ وہ فطری جذبہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ لہذا کفر کی دنیا بے راہ روی کا  
 شکار ہو گئی۔ اس بہت کے جذبہ کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مخلوق سے محبت کرنا  
 شروع کر دی۔ چنانچہ کفر کی دنیا میں کھانا پینا مقصد زندگی ہے اور باقی زندگی ان کی  
 مخلوق کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے زندگیکے محبت (love) کا بنیادی مقصد ایک  
 مرد اور عورت کا آپس کا ملاپ ہے۔ اس لئے وہ تمام چابتوں کو پورا کر کے بھی  
 ادھوری زندگی گزارتے ہیں اور انہیں اپنا آپ خالی نظر آتا ہے۔ کھوئے کھوئے لگتے  
 ہیں، حق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، انہیں مقصد زندگی نصیب نہیں  
 ہوتا۔ اس لئے کہتے ہیں

We are in search of truth

ہم حق کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔

چج کیا ہے؟

اور حق کیا ہے؟ جو اسلام نے بتایا کہ لوگو! تمہارا ایک پروردگار ہے جو بہت  
 صفات کا مالک ہے، تمہیں اپنے اس خالق اور مالک کے ساتھ بے پناہ محبت حاصل  
 کرنی چاہئے، زندگی کی ترتیب یہ ہو گی تو تمہارے فطری جذبے کو تسلیم مل جائے گی۔  
 اسی لئے وہیں اسلام نے ایک بخوبی بات بتائی کہ لوگو! اپنے دلوں میں اپنے رب کی  
 محبت کو پیدا کرو، تمہاری زندگیوں کی تمام پریشانیوں کا حل تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری  
 پریشانیوں کا حل نہ روٹی میں ہے، نہ کپڑے میں، نہ مکان میں، کسی چیز میں حل نہیں

ہے، تمہاری پریشانیوں کا حل تمہارے، لک اور خالق کی محبت کے حاصل کرنے میں ہے۔ اگر وہ محبت دل میں ہوئی تو تم فاتح سے بھی ہو گے تو تم اپنی زندگی سے مخلوق (Enjoy) کر رہے ہو گے، تم دیرانے میں بھی بیٹھے ہو گے تو تمہیں انجم میں پیشئے کا مزہ آ رہا ہو گا۔

### محبت کی حقیقت:

وہ سن اسلام نے محبت کی حقیقت کو بڑے اچھے انداز سے کھول کر واضح کر دیا اور بتایا کہ محبت ایک وجہ انسان کی کیفیت ہے اور اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خیر میں رکھ دیا گیا ہے۔ جس کو وہ ماحول مل جاتا ہے تو یہ بیج پھر پھست پھولتا ہے اور اس میں نیک اعمال کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ لہذا دنیا کا کتن گناہ گار اور غافل ترین انسان کیوں نہ ہو اگر اس کو آپ اچھے، حول میں لے آئیں تو اس کے اندر وہ فطری بیج پھلنے پھولنے کے Chance (امکانات) موجود ہوتے ہیں۔

اس لئے دنیا نے دیکھا کہ ابن شبات وقت کا کتنا بڑا ذرا کو تھا۔ وقت کے دکام نے اس کو سزا کیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا، اس کو دس سال تک انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں میں بھی رکھا، لیکن دس سال کے بعد جب جیل سے نکلا تو پھر اس نے چوری کرنی شروع کر دی۔ بالآخر جنید بغدادی صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے اس کا کسی طرح واسطہ پڑا تو اس مرد قلندر کی ایک نگاہ تھی جس نے اس کے دل کو بدل دی۔ حتیٰ کہ وہ وقت کا ولی بنا اور جنید بغدادی صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے اس نے اجازت و خلافت پائی۔ تو انسان کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی محبت میں وہ ماحول مل جاتا ہے، وہ فضائل جاتی ہے جہاں ہر انسان کے اندر چھپا ہوا دل محبت الہی کی انگریزی لیتا ہے اور انسان کا دل اسے نیکی کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لئے اللہ والوں کی ایک محفل بعض لوگوں کی زندگی کا رخ بد لئے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے،

دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی ہے  
تھی جو ایک چوت پرانی وہ ابھر آئی ہے  
وہ جو یوم میثاق کو عشق کی چوت پڑی تھی، ان کی محفلوں میں وہ چوت پھر ابھر آتی  
ہے، پھر وہ درد محبت دل میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب  
محسوس کرتا ہے اس لئے ایک شاعر نے ناز میں آکر اپنے بارے میں اشعار کہے۔  
کہتا ہے:

ناظم باحشم خود کے جمالے تو دیدہ است  
افتقم باپائے خود کے باکوئیدہ رسیدہ است  
[میں اپنی آنکھوں پر بڑا ناز کرتا ہوں کہ اس نے تیرے جمال کو دیکھا ہے،  
میں اپنے پاؤں پر گرا ہوا ہوں اسی خوشی کی وجہ سے کہ وہ تیرے کو پے کے  
اندر چل کر گئے ہیں]

ہر دم ہزار یوسرہ زخم دست خوش را  
کو دامت گرفتہ یوسویم کشیدہ است  
”ہر لمحے میں اپنے پا تھوں کو یوسرہ دیتا ہوں کہ تیرے دامن کو انہوں نے  
پکڑا اور تجھے اپنی طرف کھینچا“

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ملتی ہے نا تو پھر انسان کو اپنے اوپر بھی پیار آتا  
ہے کہ میں نے یہ کتنا اچھا کام کیا کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسالیا، میں نے کتنے  
اچھے راستے کو چن لیا۔ میں نے اس محظوظ حقیقی کی محبت کو زندگی کا مقصد بنایا۔

### محبت الہی کی شیرینی:

میرے دوستو! حلوائی کی دکان پر کھیاں پیٹھی ہوتی ہیں، وہ ان کو اڑاٹا بھی ہے تو  
کھیاں جاتی نہیں ہیں، وہ پھر ہٹ کر لڈو پر پیٹھی ہیں، پھر ہٹ کر برلن پر پیٹھی ہیں، شہر

پر بیٹھتی ہیں، ہنچتی نہیں ہیں، سینکڑوں دفعہ اڑاؤ تو پھر وہیں آ کر بیٹھیں گی۔ آخر بات کی ہے؟ شیرینی نے ان کو اپنی طرف کھیج لیا ہوتا ہے۔ ان محفلوں میں یہ محبت الہی کی شیرینی ہوتی ہے جو کھیج کر لے آتی ہے۔ کسی کے کاروبار کا تقاضا، کسی کے گھر بار کا تقاضا، کسی کی صحت کا معاملہ، سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، جوان کو یہاں سے لے جانے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں، تمام تقاضوں کو اپنی جگہ دبا کر ان محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، آداب سکھنے پڑتے ہیں۔ اور جب بھی تربیت کرنی پڑے گی تو کبھی پیار سے اور کبھی ناراض ہو کر، جدل اور جمال اور دونوں انداز سے بندے کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ یہی تو کرتے ہیں، کبھی بچے کو پیار سے سمجھاتے ہیں اور کبھی اس کو غصے میں آ کر سمجھاتے ہیں۔ عین غصے میں بھی ان کے دل میں پیار ہی پیار ہوتا ہے مگر بچے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سماں کیمین کو یہاں کتنی مرتبہ ایک بات پڑھ کا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتے ہیں پھر قریب آتے ہیں۔ وہ حلوائی کی دکان کی طرح ہٹ کر جاتے نہیں ہیں۔ یہ محبت الہی کی شیرینی ایسی ہے کہ جب دل کو ایک مرتبہ اپنی طرف کھیج لیتی ہے تو جانے کا دل نہیں کرتا۔

کتنے لوگ اجتماع کی دعا کے دن مجبوریوں کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے زمین نے پکڑ لئے ہوں۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا مقناطیسیت ہے؟ کہ یہاں سے پاؤں ہٹتے ہی نہیں۔ کہنا پڑتا ہے کہ بھی آپ نے جانا تھا تو آپ جائیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اصل میں محبت الہی ہے۔

### عشق کی دکانیں اور عشق کی پڑیاں:

جن کے دلوں میں یہ محبت الہی جوش مارتی ہے، وہ پھر عشق کی دکانوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں حلوائی کی دکانیں ہوتی ہیں، ایسے ہی اس دنیا میں

عشق کی بھی دکانیں ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ والوں کی جگہیں ہوتی ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں سے عشق کی پڑیا ملتی ہے۔ حکیم کے پاس چلے جاؤ تو جسمانی بیماری کی پڑیا ملتے گی، ان روحانی طبیبوں کے پاس چلے آؤ تو روحانی بیماریوں کی پڑیا ملتے گی۔ محبت الہی والی ایسی ایک پڑیادیتی ہیں کہ اندر کی ساری بیماریوں کو شفاء کلی فصیب ہو جاتی ہے۔ یہی دوائے دل ہے جس کو لینے کے لئے آپ حضرات یہاں آتے ہیں اور اپنا وقت یہاں گزارتے ہیں۔ یہ سالکین کا اجتماع اسی دوائے دل کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ سب اللہ کو چاہنے والے ہیں،

بِہمْ هُوَ تَمْ هُوَ كَهْ مِيرْ هُوَ  
اسْ كِيْ زَلْفُوْنْ كَهْ سَبْ اِيْرْ هُوَ  
سَبْ اللَّهْ كَهْ چَاہِنَے وَالَّهْ، سَبْ اسِيْ كَهْ دِيوَانَهْ، اسِيْ كَهْ محْبَتْ مِيْں بَے قَرَارْ  
ہو کر ان جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا:

نَهْ دَانَامَهْ گُلْ خَانَدَاكَهْ رَنْگْ وْ بوْ دَارَدْ  
كَهْ مَرْغْ هَرْ چَمَنْ گَفْتَگُونَهْ اوْ دَارَدْ

### ایمان کی شرط:

دنیا میں اسلام کا حسن و جمال دیکھئے کہ اس نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ دین اسلام نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا۔ چنانچہ ابو رضیع رض ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِمَّا سَوَّا هُمَا  
کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ تمام دنیا سے تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، اسی

کا نام ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی شرط ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہہ دیا:

فَلْ إِنْ كَانَ آبَائُكُمْ وَآبَائِئُكُمْ رَاغِوَانِكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَ  
عَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُ لَا فَتَرْفَسُوهَا وَنِجَارَةٌ تَخْسُونَ كَسَادَهَا وَ  
مَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي  
سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ . (توبہ: ۲۳)

[کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، خدا اور اس کے رسول اور اللہ کی راہیں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو نہ ہرے رہو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم (عذاب) بھیجے۔]

دیکھا! ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب ﷺ کی محبت کو غالب ہونا چاہئے۔

### دل اور دماغ کا فرق:

میرے دوستو! انسان کے پاس دو عتیں ہیں ایک دل اور ایک دماغ۔ دماغ علم الہی کا برتن ہے اور دل عشق الہی کا برتن ہے، مگر دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دماغ ہفت زبان ہوتا ہے اور دل یک زبان ہوتا ہے۔

### سات زبانوں میں اشعار:

سات زبانیں تو بہت سارے لوگ جانتے ہی ہیں۔ چلیں آپ کو سات زبانوں میں اشعار سناتے ہیں:

اردو میں علامہ اقبال نے کہا:

۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق  
عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کرہ تصورات  
[اگر محبت الہی نہ ہو تو پھر پوری کی پوری شریعت تصورات کا بست کرہ بن  
جاتی ہے۔ اگر محبت الہی کو نکال دو تو پچھے کیا رہ گیا]  
فارسی میں کہنے والے نے کہا:

۔ یا پہ مورہ یا بم جنتوئے می کنم  
حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می کنم  
[میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں مگر میں اس کو پانے کی جنتو تو کروں گا وہ مجھے  
حاصل ہو یا نہ ہو مگر اس کی آرزو تو مجھے کرنی ہے]

عربی زبان میں بھی اشعار ہیں۔ کسی نے کیا پیار اشعار کہا ہے:

تَرَكَثُ لَاثٌ وَالْعَزِيزُ جَمِيعًا

كَذَلِكَ يَفْعُلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

۔ سمجھی کبھی تھائی میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھنا چاہئے اور انسان  
کے دل میں یہ جو حقوق کی محبت پھیلی ہوئی ہے نا، کسی کزن کی محبت، کسی پڑوسن کی محبت،  
یہ لات اور منات ہیں آج کی دنیا کے۔ تو اپنے نفس کو کہنا چاہئے۔

تَرَكَثُ لَاثٌ وَالْعَزِيزُ جَمِيعًا

كَذَلِكَ يَفْعُلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

[لات اور منات کو میں نے چھوڑ دیا، ایسا ہی کرتا ہے ہر وہ شخص، جس کو اللہ  
نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے]

انگریزی میں بھی کہنے والوں نے محبت الہی میں باشیں کیس، مثلاً کسی نے کہا۔

Oh Allah! sweet is your memory,

Dear is your name,

Deep in my heart you will always remain.

[او اللہ! آپ کی یاد بڑی میٹھی ہے اور آپ کا نام بڑا پیارا ہے۔ اللہ! میرے دل کے اندر آپ ہمیشہ رہیں گے۔]

سرائیکی زبان میں بھی اللہ کی محبت میں کہنے والوں نے کہا:

ہور کہانی مول نہ بھانی

الف لثم دل کھس دے میاں جی

”ب“ ”ت“ دی سیکوں لوڑ نہ کائی

الف کیتم بے وس دے میاں جی

[اللہ! کوئی اور کہانی مجھ کو اچھی نہیں گئی، ایک الف اللہ وہ ہی مجھے کافی ہے،

اف نے مجھ سے میرا دل چھین لیا] ... اللہ! کبر کبیرا!

پنجابی زبان میں بھی حضرت باہو کے کتنے پیارے شعر ہیں:

الف اللہ چنے دی بوئی

من مرشد میرے وچ لائی ہو

نفی اثبات دا پانی ملیا

ہر رگے ہر جائی ہو

اندر بوئی مشک مچایا

جان مکلن تے آئی ہو

جیوے مرشد کامل با ہو

جیس اے بوئی لائی ہو

اللہ تعالیٰ کی محبت میں پشتوز بان والوں نے بھی اشعار کہے۔ ہمیں تو آتی نہیں

ہے لیکن آپ کو شعر نہتے ہیں۔

— چہ اللہ در سرہ مل نہ وی رحمانہ  
کہ لینکرے در سرہ وی یک تمھائے  
[اگر تجھے اللہ نہ طے تو اے رحمن! تیرے پاس لشکر بھی ہوں تو تو اکیلا اور تہہ  
ہے]

### دل کی زبان:

تو انسان کا دماغ ہفت زبان ہے اور دل یک زبان ہے۔ دل ایک زبان جانتا  
ہے اور اس زبان کا نام ہے محبت، دل صرف محبت کی زبان جانتا ہے۔ اس لئے اللہ کا  
نام لو، دل پھر ک اٹھے گا، تڑپ اٹھے گا۔

— عقل عیار ہے سو بھیں بنائیتی ہے  
عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب  
تو دماغ ہفت زبان ہے، دل یک زبان، وہ محبت کی زبان جانتا ہے۔ اسی  
لئے کہنے والے نے کہا:

— اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل  
لیکن کبھی کبھی اسے تھا بھی چھوڑ دے  
عقل اور چیز ہے دل اور چیز ہے۔ عشق اور عقل کا علامہ اقبال نے ایک اور جگہ  
بہت پیارا مقابل لکھا ہے۔ کہتے ہیں:

ناہ ہے بلبل شوریدہ خام ابھی  
اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی  
پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت انداش ہو عقل  
عشق ہو مصلحت انداش تو ہے خام ابھی

عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل  
 عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی  
 بے خطر کو د پڑا آتش نرود میں عشق  
 عقل ہے محو تماثلے لب بام ابھی  
 عقل کہتی ہے، اوہ راستہ ہی نہیں جاتا، عشق کہتا ہے کہ اس راستے میں یار کو  
 بزراروں و فعمل کے آیا ہوں۔

۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے  
 لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے  
 اسی لئے،

۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے  
 تاپے منزل صرف دیوانے گئے  
 (فرزانہ کہتے ہیں جو عقل سمجھ کے ساتھ اس راستے کو طے کر رہا ہو)  
 جن کے اندر منزل کو پالینے کی دیوانگی ہوتی ہے پھر وہ منزل پر پہنچ جایا کرتے  
 ہیں۔ ان کے لئے منزل قریب ہوتی ہے۔

### دل کا کام:

انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا ایک کام ہے: آنکھ کا کام ہے  
 دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سخنا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ آنکھ کا تصور  
 دیکھے بغیر نہیں، کان کا تصور سننے کے سو نہیں، اسی طرح دل کا تصور محبت کے بغیر  
 نہیں۔ دل محبت کا برتن ہے، محبت اس میں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ خالق کی محبت ہو  
 یا مخلوق کی۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کی محبت میں آ جاتے ہیں ان کے دلوں

سے مخلوق کی محبت کھرچ کے نکل جاتی ہے۔ اور اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہو جاتے ہیں، یہ عشق کی راہ پر چل جاتے ہیں اور دوسرے فتن کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔

### اعضاء کی لذات:

ایک بات ذہن میں رکھنا! کہ انسان کے ہر عضو کی اپنی لذت ہوتی ہے۔

### آنکھ کی لذتیں:

کچھ لذتیں انسان کو آنکھوں سے ملتی ہیں۔ آپ خوبصورت منظروں کی صیحیں تو اتنا اچھا لگتا ہے بسا اوقات تو کہ چیچھے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا۔ کبھی دیکھا کریں، جو لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں جب وہ جدا ہو رہے ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف پر ان کی نگاہیں جمی ہوتی ہیں، اب ان کے لئے وہاں سے قدم چیچھے ہٹانا ایک مسئلہ ہوتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا کہ بیت اللہ شریف سامنے ہے اور ہندہ چیچھے بہت جائے اور اس کو اپنی آنکھوں سے اوچھل کروے۔ ایک نعمت ہے جو بیت اللہ کو دیکھنے سے مل رہی ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بغیر آنکھ جھکے میں اللہ کے گھر کا دیدار کرتا رہوں۔ تو کچھ لذتیں دیکھنے کی راہ سے ملتی ہیں، کچھ لذتیں انسان کو سننے کے راستے سے ملتی ہیں۔ جیسے اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے کتنا مزہ آتا ہے! نبی ﷺ کی شان میں اشعار پڑھے جائیں کتنا مزہ آتا ہے۔ ابھی عزیزم اظہرا قبائل آپ کے سامنے نفت پڑھ رہے تھے، میں نے مجمع میں کتنے لوگوں کو دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایک اچھی آواز میں اپنے محبوب کی جو تعریف ہوئی تو پھر دل قابو میں نہیں رہتا۔ وہ آنسوؤں کی زبان میں پھر اپنا پیغام لکھوانا شروع کر دیتا ہے۔ قلم تو سیاہی نے سے پیغام لکھواتا ہے اور دل آنکھوں کے پانی سے پیغام لکھوایا کرتا ہے۔

ناک کی لذتیں:

اسی طرح کچھ لذتیں انسان کو تاک کے راستے سے ملتی ہیں۔ مشاں کے طور پر خوبصورتیں، غیر کو سو نگھیں اور مزہ، عود کو سو نگھیں اور مزہ کستوری کو سو نگھیں تو اور مزہ۔ ہمیں ایک دفعہ ایک عربی دوست نے کستوری لا کر دیدی، بہت سال پہلے کی بات ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی عجیب خوبصورتی اس کی۔ اللہ کی شان کہ کوئی ایک دسمیں کے بعد ہمارے ایک قریبی دوست تھے (وہ جزل فجر تھے) ان کی شادی ہوئی تو ہم نے شادی پر اس کو وہ کستوری تقدہ اور ہدایہ کے طور پر دے دی۔ ایک مہینے کی چھٹی گزار کر وہ واپس آئے تو بات بات میں ہم نے پوچھا کہ جی وہ خوبصورتی کیسی تھی؟ کہنے لگے: تھی تو بڑی اچھی، مگر اس نے تو لڑائی ڈلوادی۔ ہم بڑے پریشان ہوئے یا اللہ خیر! کہنے لگے کہ میں نے وہ خوبصورا پنی بیوی کو ہدایہ کر دی اور میری بیوی نے وہ خوبصورا پنے کپڑوں پر نگالی، اب خاندان کی جتنی نوجوان لڑکیاں تھیں وہ اس کے گرد ہو گئیں کہ یہ خوبصورتیں بھی دو، اس بیچاری نے ساری تقسیم کر دی۔ وہ کہتیں: تم نے چھپائی ہوئی ہے اور دو، جن کو دی، وہ تو خوش ہوئیں اور جن کو نہ دی وہ ناراضی۔ اور اب تک سب یاد کرتے ہیں کہ وہ خوبصورتیں سے منگوا کر دو۔ تو بعض اوقات ایسی خوبصورتیں ہوتی ہیں، اور وہ واقعی ایسی خوبصورتی کہ اس عاجز نے اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھویا، کپڑے دھونے کے باوجود ایک ہفتے تک کستوری کی خوبصورتی کے کپڑوں سے آرہی تھی۔ تو کچھ لذتیں انسان کو تاک کے راستے سے ملتی ہیں۔

زبان کی لذتیں:

کچھ زبان کے راستے سے لذتیں ملتی ہیں، یہ جو کھانے پینے کے Taste (ذائقہ) اور لذتیں ہیں یہ بسا اوقات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کتنا کہہ رہا ہو کہ میں نے پیٹ بھر لیا ہے، پیٹ بھر لیا ہے، اس کو اگر آپ کوئی میٹھائی دکھا

دیں، آئس کریم کے Flavour (مہک) سونگھا دیں تو اسی وقت منہ میں پانی آجائے گا، کہنے گا کہ نہیں یہ تو مجھے کھانی ہی ہے۔ اور جس کوشش گر ہو گی وہ تو کہنے گا نہیں جی اللہ تو کل کھالیتا ہوں، ویسے یہ مجھے کچھ کہتی نہیں ہے۔ تو میٹھا کھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ہماری محفل میں چونکہ دوستوں کو پڑتے ہے کہ اگر کسی کو ایسی مرض ہو تو میں اس پر ذرا سختی کرتا ہوں تو جس نے کھانا ہوتا ہے وہ پھر مجھ سے چھپ چھپ کر کھاتا ہے۔ ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہوتا ہے مگر کھانے سے رہ نہیں سکتے۔ تو کچھ لذتیں انسان کو زبان کے راستے ملتی ہیں۔

### پوشیدہ اعضاء کی لذتیں:

کچھ لذتیں انسان کو جسم کے پوشیدہ اماء کے ذریعے ملتی ہیں۔ وہ جوانی کی لذتیں ہیں اور سب شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ ان لذتوں کے سامنے کھانے پینے کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

### دل کی لذتیں:

تو جس طرح ہر عضو کی لذت جدا ہے۔ اور ایک عضو سے بڑھ کر دوسرے عضو کی لذت بڑی ہے۔ ان تمام اعضاء کا سردار انسان کا دل ہے اور ایک لذت انسان کو دل سے بھی ملتی ہے اور وہ لذت ہے محبت الہی کی لذت۔ جس اللہ کے بندے کو یہ محبت الہی کی لذت مل گئی پھر جسمانی نفسانی لذتیں اس کے سامنے لیچ ہو جاتی ہیں۔

۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

۔ عجب چیز ہے لذت آشنا کی

یہ اللہ تعالیٰ کی لذت بھی عجیب ہوتی ہے۔ بھی ہوتی ہے جو اللہ والوں کو تہجد کے وقت میں جگاتی ہے، جو ساری ساری رات انسان کو مصلے پر بٹھاتی ہے، جو انسان کو

مراقبے میں گھنٹوں بھائے رکھتی ہے، جو تہائی میں بھی انسان کو اداس نہیں ہونے دیتی۔ یہ دل فی لذت ہوتی ہے جو اللہ والوں کو دل کے مزے نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لئے جو لوگ اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ دیکھیں بھی! بدن پر کوئی گدگدی کرے تو کتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو جسم کو گدگدی ہو تو اتنا مزہ اور اگر دل کو گدگدا یا جائے تو کتنا مزہ آئے گا! تو اللہ کی باتوں سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ والے سالک کے دل کو گدگداتے ہیں۔ تو پھر بندے کو مزہ مل جاتا ہے، لطف نصیب ہو جاتا ہے۔

### قانونی تعلق:

ایک بات دل میں رکھنا! ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنوں تعلق۔ بات بڑی نکتے کی، سمجھنے والی ہے۔ ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنوں تعلق۔ مثال کے طور پر کئی وفع میاں بیوی رشتہ میں تو میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن اندر سینہڈنگ (مفاہمت) بالکل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے روزگھٹ پھٹ ہوتی رہتی ہے۔ اور رکھت پھٹ ہوتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی کہلاتے ہیں، خاوند کما کر لاتا ہے، بیوی کو خرچہ دیتا ہے اور بیوی روٹی پکاتی ہے، گھر کے کام کا ج کرتی ہے، دونوں گھر چلا رہے ہو تے ہیں مگر تعلق کون سا ہوتا ہے قانونی تعلق ہوتا ہے۔ کہ میاں بیوی جو ہوئے، اب وقت تو گزارنا ہے۔ چنانچہ خاوند نے کبھی بیٹھ کر بیوی کے ساتھ روٹی نہیں کھائی ہوتی۔ بیوی بیمار ہو جائے تو کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں ہوتا کہ تم نے دوائی بھی لی یا نہیں، اس لئے کہ قانونی تعلق جورہ گیا۔ دل

میں محبت نہیں ہے، ظاہرداری ہے۔ اور اس ظاہرداری کی وجہ سے راتوں کو دیر سوریہ سے آتا ہے، کبھی بیوی کی طرف مسکرا کر نہیں دیکھتا، ذرا موقع ملتا ہے تو فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر کے خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی بڑے بڑے عیب بن کر پیش کرتا ہے۔ بیوی خاوند کی غلطیاں ڈھونڈتی ہے اور خاوند بیوی کی۔ ہیں آپس میں میاں بیوی مگر ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغرض ایسا بھرا ہوتا ہے کہ اگر ڈنڈا بیوی کے ہاتھ میں دیں تو سب سے پہلے وہ خاوند کے سر میں مارے اور خاوند کے ہاتھ میں دیں تو سب سے پہلے وہ بیوی کے سر میں مارے، یہ تعلق قانونی تعلق کہلاتا ہے۔

### جنوںی تعلق:

اور ایک ہوتا ہے جنوںی تعلق۔ جب میاں بیوی کے درمیان جنوںی تعلق ہوتا ہے تو پھر دفتر سے بھی صاحب بہانہ بنا کر جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ پھر جب باہر کوئی کہتا ہے: کھانا کھالو! تو کہتا ہے، نہیں میری طبیعت نہیں نہیں ہے میں گھر جا کر کھاؤں گا، مطلب یہ کہ جو سردی مجھے گھر میں ملے گی وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ پھر گھر سے باہر رات گزارنی مصیبت نظر آتی ہے، پھر دفتر میں کام کے دوران بھی بہانے سے بیوی کو فون کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کو پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کیا پکایا، پھر چھینیوں میں ادھر ادھر آؤنگ (گھومنے پھرنے) کے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بہانے سے اویجی ہماری شادی کی سالگرہ کا دن آ رہا ہے تو اس دن ایک دوسرے کو گفت لئے دیئے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل بینھنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جنوںی تعلق کہتے ہیں۔

لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ دیکھو جی! زن مرید بن گیا ہے۔ ایک کان سے سنتے ہیں

دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ایسے بھی دیکھا کہ اتنی افراط و تفریط زندگی میں آ جاتی ہے کہ لوگ اپنے سگے ماں باپ کو بھی وہ محبت نہیں دے پاتے جو وہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں، یہ تعلق کیا کہلاتا ہے؟ جنوں تعلق کہلاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت رومنٹک زندگی گزارتے ہیں، تو ایک قانونی تعلق ہوتا ہے اور ایک جنوں تعلق۔

### آج کے مسلمان کی حالت:

اگر آپ نے یہ مذکورہ مثال اچھی طرح سمجھ لی تو ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے عام مسلمان کو اپنے اللہ کے ساتھ قانونی تعلق رہ گیا ہے۔ آج کے عام مسلمانوں کو اپنے اللہ کے ساتھ کون سا تعلق رہ گیا ہے؟ قانونی تعلق۔ اسی لئے پوچھتے ہیں یہ سنت ہی ہے نا؟ کوئی واجب اور فرض تو نہیں۔ جی میں نے واجب اور فرض پڑھ لئے ہیں اور کیا کروں؟ قانونی تعلق ہے بس فرض پڑھے بھگتا دیا، نفلیں بھی گئیں، تلاوت بھی گئی، ذکر بھی گیا، باقی مسحتات بھی گئے، بس وہ قانونی تعلق بھر رہے ہیں۔ زکوٰۃ اگر کبھی دے دی تو بوجمل دل کے ساتھ، اللہ امّہ خیر صلا۔ اللہ راستے میں ایک پیسہ صدقہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد میں آنا مصیبت نظر آتا ہے، ایسے وقت میں آتے ہیں، جب امام اپنے عربی خطبے کے آخری الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے اور چھپلی صاف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دیں سے سیدھا واپس چلے جاتے ہیں اور مسجد سے نکل کر ایسے اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں جیسے کسی جیل خانے سے نکل کے باہر آگئے ہیں۔ یہ قانونی تعلق ہے۔ مارے باندھے عمل کرتے رہتے ہیں، جتنا جان چھڑوا سکتے ہیں، اتنا چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق۔ کلمہ پڑھ لیا، اس کو خداوند لیا، لہذا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ جیسے نکاح پڑھوایا گیا، بیوی ہے، لہذا اس کو تخلوٰہ تولا کر دینی ہے۔ تو اسی طرح آج کے مسلمان کو اپنے

اللہ سے قانونی تعلق رہ گیا ہے۔

### اللہ سے جنوںی تعلق مطلوب ہے:

اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ سے جنوںی تعلق ہونا چاہئے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مجر صادق، اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر بتائی اور فرمایا:

اذْكُرُو اللَّهَ حَتَّىٰ يُقَالَ إِنَّهُ مَعْنُونٌ

[تم اللہ کا ذکر اتنا کرو حتیٰ کہ لوگ کہیں کہ یہ تو مجنون ہے]۔

تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندے سے جنوںی تعلق چاہتے ہیں۔ اور پھر جب جنوںی تعلق ہوتا ہے، تو پھر فرض پڑھ کر مزہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر واجب بھی، سختیں بھی، مستحب بھی، فرض کے بعد مسجد میں مرائب میں بیٹھنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر رات کو تجدید میں اٹھ کر ملاقات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر انسان عبادت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تلاوت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر انسان کام کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے انسان اللہ تعالیٰ کا نام سن کر تڑپ جاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے اس رکاوٹ پر پاؤں رکھ کر انسان آگے گزر جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت سے جنوںی تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ جنوںی تعلق ہوتا ہے تو پھر زندگی میں محبوب کا ہی غبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں از لیخا کو یوسف میں سے محبت ہو گئی تھی، جنوںی تعلق ہو گیا تھا، اور یہ جنوںی تعلق کیسا تھا؟ اتنا کہنے والے نے کہا:

— چوں ز لیخا کف سپنده پاپ۔ حور

نام جملہ چیز یوسف کرد بود

[ز لیخا کا حال دیکھو! اس نے یہاں سے لے کر وہاں تک ہر چیز کا نام یوسف

رکھ دیا]

زینخ جو چیز سے نظر آتی تھی اس کو یوسف کہتی تھی۔ یہ بھی یوسف ہے تو یہ بھی یوسف ہے، یہ بھی یوسف ہے اس کو دنیا میں سارے یوسف ہی نظر آتے تھے۔ تو جب نفسانی، شیطانی محبتوں میں جنون کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جنوں تعلق اللہ رب العزت سے بھی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو تلاوت قرآن کے بغیر مزہ نہیں آتا، پھر نماز کے بغیر مزہ نہیں آتا، پھر اہم رازی ﷺ کی طرح وہ کہتا ہے کہ

”اے اللہ! ون اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیز کے ساتھ“

پھر وہ کہتا ہے:

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے  
تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے تیرے نام سے  
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ محبت کا تعلق بندے کو میرے ساتھ ہواں لئے  
ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾ (آل بقرہ: ۱۶۵)

[ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے]

ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ثوٹ کر پیار کرتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے

محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے:

چنانچہ جب کسی سے محبت ہو تو اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک وہ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ بیٹے کے کپڑوں کو دیکھ کر رویا کرتی تھی، بیٹے کے کمرے میں جا کر رویا کرتی تھی، جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی اسے بیٹا یاد آتا، وہ روئی تھی۔ تو

بالکل اسی طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو تو بندے کو اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو شعائر اللہ سے محبت ہوتی ہے، کلام اللہ سے محبت ہوگی، رسول اللہ سے محبت ہوگی، بیت اللہ سے محبت ہوگی، اولیاء اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ شبین میں بھی اسے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب محبوب کی ساتھ محبت ہو، اس کی معیت اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ ہمکلامی اچھی لگتی ہے، اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ملاپ اچھا لگتا ہے۔

### اللہ کے ذکر سے مومن کا دل تڑپتا ہے:

اور یہی حال مومن کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، جو کہ حدیث پاک میں فرمادیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے،

### آنَاجِلِیسُ مَعَ مَنْ ذَكَرَنِي

[میں اس بندے کا ہم جلیس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے]

میں اس بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ چونکہ ذکر کی حالت میں بندے کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے لہذا مومن کو اللہ کی معیت اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا ہے۔ یہ معیت الہی اسے اچھی لگتی ہے، ذکر الہی میں اسے نہ سرت ملتی ہے، اللہ کا نام سن کر اس کا دل تڑپ جاتا ہے اور یہی بات کہی گئی۔

سنئے اور ذرا دل کے کافنوں سے سنئے! فرمایا

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ﴾

[جو مومن بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، جو میں اسے دل تڑپ اٹھتے ہیں]

التدقیل کا نام سن کر مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اب اس وجہت قلوبہم کو ذرا اور انداز سے سمجھیں۔

### ایک بیمارِ عشق کا واقعہ:

ایک واقعہ سن لیجئے! ایک بادشاہ نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، بڑی محبتور کے ساتھ اس نے اسے محل میں رکھا، مگر لڑکی روز بروز چپ ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی، اس کی صحت گرتی چلی گئی، ٹنکل دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ خوش نہیں ہے، یہ مغموم ہے، یہ اداس ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑے علاج کروائے کوئی دوائی ٹھیک ہی نہیں پہنچتی تھی۔ ایک طبیب تھا جس کو کچھ باطن کی نظر بھی حاصل تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت؟ میں اس کا علاج کرتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور اس کو آپ اس کی باندی کے ساتھ میرے پاس بھیج دیا کریں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ بادشاہ نے اس کو اس طبیب کے پاس بھیج دیا۔ طبیب نے اس لڑکی کے سارے کوائف جمع کر لئے۔ جدھر سے شادی ہو کر آئی تھی اور جتنے رشتے اس کے آئے تھے اور جتنے رشتے دار اس کے امیدوار تھے، اس نے وہ ساری معلومات اکٹھی کر لیں۔ اس نے اس لڑکی کو بھایا اور چیک اپ کیا، اور دیکھا کہ کوئی بدندی مرض نہیں ہے۔ یہ کوئی اندر کا روگ ہے، اندر کا مرض ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی بیض پر ہاتھ رکھا اور اس سے باتیں شروع کر دیں اور باتیں کرتے کرتے اس نے ان سب کے نام لینا شروع کر دیئے جن کے رشتے آئے تھے، تو جب اس نے اس جیولر کا نام لیا جو اس کا کزن بھی تھا اور جس کے ساتھ اس لڑکی کو چھپی محبت تھی تو اس کی بیض تیز ہو گئی۔ لڑکی دراصل اس کزن سے نادی کرنا چاہتی تھی مگر ماں باپ نے وقت کے بادشاہ سے شادی کر دی، اب لڑکی دل میں اسے بسارہی تھی اور گھر بادشاہ کا بسارہی تھی۔

اب جب طبیب نے دیکھا کہ بیض تیز ہو گئی تو طبیب نے اس سے پوچھ لیا کہ

اب بتاؤ بھئی! آپ کے دل کی بات یہی ہے نا کہ آپ کی پسند یہ تھی کہ اس کے ساتھ شادی ہوتی اور ہو بادشاہ کے ساتھ گئی، تو اسے اپناراز کھولنا پڑا۔

### اللہ ذکر سے مومن کی نفس تیز ہو جاتی ہے:

تو یہ واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کی نفس تیز ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کا نام سن کر مومن کی نفس تیز ہو جاتی ہے، اللہ سے دل ملا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں بسا ہوتا ہے، اللہ کی محبت اسکے دل میں رچ بس چکی ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ کا نام سن کر یہ بے قرار ہو جاتا ہے، تذپب اٹھتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے مومن بندے ہیں وہ میرا نام سنتے ہیں تو میرا نام سن کران کے دل تذپتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی ہیں۔ کاش! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایسا ہی تعلق نصیب فرمادے۔

### تلاؤت قرآن.....اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی:

تلاؤت سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوئی ہے اور تلاؤت سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی نصیب ہوئی۔ اب اگر کسی کے ساتھ شیلیفون پر گفتگو ہو رہی ہو اور درمیان میں محبت کا جنوں تعلق ہو تو پانچ منٹ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، وس منٹ کا بھی پٹھ نہیں چلتا۔ اگر پیٹھا کہے کہ امی میں سعودی عرب سے فون کر رہا ہوں اور آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، تو ماں کہے گی بیٹا! ابھی تو میں نے دو ہی باتیں کی ہیں۔ یہ ماں کو جنوں تعلق ہے۔ آدھا گھنٹہ بیٹے سے بات کرتی رہی اور اسے لگتا ہے کہ میں نے دو ہی باتیں کی ہیں۔ بالکل اسی طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے جنوں تعلق ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں

قرآن پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے تھوڑا سا اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے جی نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں۔ وہ پڑھتا ہے اور محبوب سے باتیں کرتے ہوئے اس کا دل تڑپتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کو یوں کہہ دیا:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَّ الرَّسُولُ تَرَى أَغْيَانَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْأَدْمَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (المائدۃ: ۸۳)

اللہ اکبر۔

﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا نَآمِنُ الْحَقَّ وَنَطْمَعُ بِذِخْلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ (المائدۃ: ۸۴)

اور جب یوں تڑپ کے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَاقْتَلُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ (المائدۃ: ۸۵)

پھر اللہ تعالیٰ بھی عطا فرمادیتے ہیں جو یوں تڑپ کر اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہمکاری اچھی لگتی ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اچھی لگتی ہے۔

## نماز.....اللہ تعالیٰ سے ملاقات:

نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اسی لئے تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے:

أَرِخْنِي يَا بَلَالُ [اسے بلاں مجھے خندک پہنچا]

کیا مطلب؟ اذان دو! میرے دل کو خندک مل جائے، میں اپنے رب سے ملاقات کرلوں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدُثُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ

كَانَهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ

جب نماز کا وقت آ جاتا تھا، اللہ کے نبی ﷺ ایسے ہو جاتے تھے کہ وہ ہمیں نہیں پہچانتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک رفعہ اذان کی آواز سنی تو اللہ کے محبوب انہ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ذرا سامنے آئی تو نبی ﷺ نے پوچھا: من انت؟ (تو کون ہے؟) میں نے کہا: عائشہ، تو نبی ﷺ نے فرمایا من عائشہ؟ (عائشہ کون؟) میں نے کہا: بنت ابی بکر (ابو بکر کی بیٹی)۔ فرمائے گئے: من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ میں نے کہا: ابن ابی قحافہ۔ فرمائے گئے: من ابی قحافہ؟ فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کون؟ پھر میں گھبرا گئی کہ نبی ﷺ اب کسی کو نہیں پہچانا میں گے۔ پیچھے ہٹ گئی نبی اکرم ﷺ کی جب کیفیت پھر عام حالت والی ہوئی اور وہ محبت کی کیفیت زرا کم ہوئی تو فرمایا: عائشہ!

لی مع اللہ وقت [میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے]

کوئی نبی مرسل، کوئی اللہ کا فرشتہ اس وقت میرے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سبب ہے، پھر مومن کا دل نماز سے نہیں پھرتا، پھر فرض پڑھنا تو اپنی جگہ پھر بنا سنوار کے واجب بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے اور پھر نفل سے بھی دل نہیں بھرتا تو اور زیادہ اپنے رب کے سامنے لمبا قیام کر رہا ہوتا ہے، لمبا جزو بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔

ایک دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں۔

وَإِذَا سَمِعَ الآدَانَ كَانَهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ

(نبی اکرم ﷺ جب آذان سنتے تھے، ایسے ہو جاتے تھے جیسے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتے)

اب اپنے رب نے بلا لیا، جیسے دلبے کی شادی ہوا اور اس وقت میں دوست بلا میں، آؤ یار! ہم آپ کو کوک پلاتے ہیں تو وہ کہے گا کہ آج تو تیری کوک میرے گھر کو "چوک" کرے گی، آج نہیں میں کوک پیتا، مجھے آج گھر جانا ہے۔ اسی طرح مومن کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ آذان کی آوازن لیتا ہے پھر اس کو مسجد کی طرف جائے بغیر چین نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی محبت میں وضو کر کے خراماں خراماں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے وہ اس حاجی کی طرح ہوتا ہے جو احرام ہاندھ کر اپنے رب کے گھر کا دیدار کرنے کیلئے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا تعلق ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو یہ ملاقات نماز کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔

### موت ..... تحفہ مومن:

اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب محبوب کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ انسان اللہ کو دیکھنے کیلئے ترپتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان چاہتا ہے کہ اللہ! میں اب مجھے جلدی اس دنیا سے جانے کا موقع نصیب ہو جائے، پھر اسے موت اچھی لگتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ

**تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ** [موت مومن کیلئے تحفہ ہوتی ہے]

کہنے والوں نے کہا:

**الْمَوْتُ جُسْرٌ يُوصَلُ الْخَيْرَ إِلَى الْخَيْرِ**

[موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا کرتی ہے]  
پھر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میں کب اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنے مولیٰ سے

جا کر ملوں گا، اس حدیث پاک میں آتا ہے:

مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهَ لِقَاءَهُ

[جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے]

پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے انسان کو مزہ آئے گا۔

### محفل دیدار:

چنانچہ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گا۔ اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ مومن وہاں سے جنت میں جانا ہی نہیں چاہیں گے، چنانچہ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ ایسا ہی ہو گا کہ پیر صاحب کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھی! اب آپ یہاں سے چلے جائیں تو عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہلتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا مقناطیسیت ہے! زمین سے ہلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھی آپ اب یہاں سے چلے جائیں! محفل برخاست ہو گئی ہے، تو محبت والے وہیں بیٹھے رہتے ہیں پھر ان کو کہہ کر لے جانا پڑتا ہے اور انتظامیہ والے ان کی منتسب کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمر پر ہاتھ پھیر کر تھکیاں دیتے ہیں اچھا بھی! پھر آجانا، ابھی تشریف لے جائیں تو ان کو بھیجا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن مومنوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ افرشتنے ان کی منتسب کریں گے، مومن وہیں اللہ کے دیدار میں مست کھڑے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر جن کو قیامت کے دن فرشتے نور کی زنجیروں سے باندھ کر جنت میں کھینچ کر لے جائیں گے، ان کی طبیعت جانے کو نہیں کرے گی، اللہ کے دیدار میں اتنے مستغرق ہوں گے، یہ محبت ہوتی ہے۔ پھر انسان کو نماز کا مزہ، تلاوت کا مزہ اور پھر انسان کو زندگی کا مزہ آتا ہے۔

اَنَّهُ! وَهُوَ دَلْ دَعَ جُو تِيرَے عُشْقَ كَا گھرْ ہو  
 دَائِئِي رَحْتَ كَيْ تِيرَى جَسْ پَرْ نَظَرْ ہو  
 دَلْ دَعَ كَيْ تِيرَے عُشْقَ مِنْ يَهْ حَالْ ہو اَسْ كَا  
 مُحْشَرْ كَا اَغْرِ شُورْ ہو تو بَھِي نَهْ خَبَرْ ہو  
 اَيْهُمَا! اَيْسَادَلْ دَعَ دَبَحَيْ، اَيْسَى آپَ كَيْ محْبَتْ اَسْ مِنْ سَامَاجَيْ كَمُحْشَرْ كَا شُورْ  
 بَھِي ہو تو پَھَرْ بَھِي مِيرَے دَلْ كَو اَسْ كَا پَتَّهْ نَهْ چَلَيْ، مِنْ اللَّهِ كَيْ محْبَتْ مِنْ اَيْسَامَتْ  
 رَهُوں۔ اَنَّهُ رَبُّ الْعَزْتِ هَمِينْ يَعْتَيْسَ نَصِيبَ فَرَمَائَيْ۔

### (محبتِ الہی کا حصول)

اب یہ محبتِ الہی ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لئے ہمارے مشائخ نے  
 کچھ طریقے بتائے ہیں۔ سنئے اور دل کے کانوں سے سنئے!!

#### (۱) طلب صادق:

چنانچہ آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔  
 وہ کیسے بھی؟ وہ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی چیز نہ دینا چاہیں تو اس چیز  
 کی طلب بندے کو نہیں دیا کرتے۔ ورنہ یہ بھی کی شان کے خلاف ہے کہ مانگنے والا  
 مانگنے اور بھی نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق  
 بعد میں دیتے ہیں اور دینے کا ارادہ پہلے فرمائیتے ہیں۔

**مَنْ طَلَبَ لَفَقِدَ وَجَدَ** [جس نے طلب کیا اس نے پالیا]

آپ چے دل کے ساتھ آج تمام نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کو دل سے  
 نکالنے کا عہد کر لیجئے اور اللہ سے ان کی محبت کو طلب کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ یہ محبت  
 آپ کے دل کو کیسے گرماتی ہے، یہ محبت آپ کے دل کو کیسے پھر دیتی ہے؟ یہ برتن بھر

جائے گا مگر اس میں اگر پہلے سے کوئی گند ہوا تو اس گند کو نکالنا پڑے گا، صاف کرننا پڑے گا۔ چونکہ اس گند سے اچھی طرح توبہ نہیں کرتے تو محبت کی وہ چاشنی نہیں ملتی جو ملنی چاہئے۔ تو ہمارے مشائخ نے اسکے طریقے بتائے ہیں کہ یہ محبت الہی کیسے ملتی ہے؟

ایک طریقہ تو اس کا حدیث پاک میں آیا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”اللہ کی محبت ملتی ہے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرنے سے۔“

### (۳) موت کی یاد:

موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا کیا مطلب؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے آرزوئیں ٹوٹتی ہیں، چاہتیں ختم ہوتی ہیں، انسان کے دل میں جو آرزوئیں ہوتی ہیں، جن کو انسان نے اپنی جان بنایا ہوتا ہے، بلکہ جنہوں نے انسان کو نوجوان بنایا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا ”ابھی تو میں جوان ہوں“ اور آگے ایک بوڑھا تھا تو اس نے سن کر کہا کہ ابھی تو میں نوجوان ہوں۔ تو یہ آرزوئیں موت کی یاد کے ساتھ کم ہو جاتی ہیں، یہ ٹوٹتی ہیں۔ اس لئے نبی حسین نے فرمایا:

اذکروا هاذم للذات الموت

لذتوں کو توڑ دیئے والی چیز موت کو یاد کرو!

تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دنیا کی آرزوئیں ٹوٹتی ہیں۔ انسان ایک حساب سے اپنے آپ کو کھانے کمانے میں معروف کرتا ہے۔ بے حساب نہیں کرتا کہ نماز کی فرصت ہی نہ ملے، بے حساب نہیں کرتا کہ انسان کو تجدید کی توفیق نہ ملے۔ اس کو ایک رکھتا ہے کہ اعمال بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔

## (۲) انعامات باری تعالیٰ کا استحضار:

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات کا استحضار کرنا، مراقبہ کرنا، سوچنے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں دے رکھی ہیں۔ تو بینہ کر سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل دی، اچھی عقل دی، اچھی صحت دی، گھر دیا، گھروالی دی، محبت کرنے والی اولاد دی، عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتوں دیں! جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں زیادہ آئے گی۔ اس لئے کہ محسن کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے قدرتی محبت ہو جائے گی۔ اس لئے تو فرمایا

**فَبِأَيِّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ**

[تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھلاوے گے؟]

تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ یوں سوچیں کہ اگر میرے کار و بار ٹھپ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر محسوس ہو گا کہ کار و بار کتنی بڑی نعمت تھی۔ اگر میرا بینا فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر محسوس ہو گا کہ بینا کتنی بڑی نعمت تھا۔ اگر یوں فوت ہو جائے تو میرا کیا بنے گا؟ اگر میرا خاوند فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کام ہو کہ میری Blood Public insult (سر عام رسوانی) ہو جائے تو کیا بنے گا؟ اگر مجھے Cancer (خون کا کینسر) ہو جائے تو کیا بنے گا؟ اگر میری بینائی چھی جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے چلے جانے سے کیا ہو گا۔ پھر دل کہے گا کہ نہیں ان نعمتوں کا میں محتاج ہوں، ان کا رہنا میرے لئے ضروری ہے۔ پھر انسان کو منعم حقیقی کے ساتھ محبت ہو جائے گی تو انعامات الہی کو یاد کریں۔ اور اگر یہ انعامات انسان کو یاد نہ آئیں تو پھر اللہ والوں کے پاس آئے اور کہے جی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد نہیں آتے۔ وہ پھر انہیں گن گن کر

وکھائیں گے کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے انعامات ہیں؟ وہ پھر اسے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور بندے کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں۔

#### (۵) اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا:

حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ وجہتِ محبتی میری محبت واجب ہو گئی، ان لوگوں پر جو میری رضا کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت کرنا۔ چنانچہ استاد شاگرد کی محبت اللہ کے دین کی وجہ سے، پیر مرید کی محبت اللہ کے دین کی وجہ سے تو یہ محبت بھی اللہ کی محبت کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔

#### (۶) اللہ کی راہ میں خرچ کرنا:

اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی، ان لوگوں پر جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

#### (۷) صدر حجی:

ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ صدر حجی کرتے ہیں، یعنی رشتے ناطے جوڑتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں تین باتیں بتائی گئیں: ایک صدر حجی کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اور اللہ کے لئے محبت کرنا۔ ان تینوں سے محبت بڑھتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم تینوں کام بڑے اہتمام سے کریں۔ تو کل پانچ کام بن گئے، موت کو یاد کرنا، کثرت سے قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کیلئے محبت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لئے رشتے ناطوں کو قائم کرنا۔ اگر ان پانچ چیزوں کو ہم اہتمام سے کریں گے تو آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھ جائے گی اور آپ اس کی

کھیاٹ کو خود محسوس کریں گے۔

کھجور و الی محبت:

دیکھیں! آج محبت تو سب میں ہے کھپاوت والی محبت نہیں ہے۔ وہ کھپاوت والی محبت مل جائے، ایسی محبت جو بندے کو اپنی طرف کھینچے وہ محبت انسان کو نصیب ہو جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یہ محبت حاصل کر لیں۔ اسی لئے توارث اور فرضاً

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُجَّةً لِللهِ (البقرة: ١٦٥)

[ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے]

بھی! جب بندوں کو اللہ تعالیٰ محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو بندوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بہت محبت ہے۔ اسی لئے اگر ساری دنیا کی ماوں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، ستر حصوں میں سے ایک حصہ نہیں بن سکتی۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَالْتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورَسِينِ ۝ (تین: ۲-۱)

طور سینین کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت پہاڑ کی قسمیں کھار ہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس کوہ طور پر ایک اللہ سے محبت کرنے والے عاشق، سیدنا موسی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖۤہٖ رَبِّہِ وَاٰلِہٖۤہٖ رَبِّہِ وَسَلَّمَ تعالیٰ سے ہمکاری کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ توجہ محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جس جگہ پر ملاقات ہوتی ہے وہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے۔ عورتیں جس گھر میں رخصت ہو کر آتی ہیں، ان کو اس گھر سے قدرتی محبت ہوتی ہے، اس گھر کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، انسان کی یہ فطرت ہے، کیونکہ پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھو! جب محبت والی جگہ اتنی اچھی لگی

کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس جگہ کی فرمائیں کہا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ محبت کتنی عزیز اور پسند ہو گی۔

### اللہ کو کتنی محبت ہے؟

اس لئے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانو گے، شریعت کی اتباع میں ستی کرو گے، ہم تمہیں بدل کر ایسی قوم کو لا میں گے۔

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (مائہ ۵۲)

(الدان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے)

اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ عبیہم کو پہلے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کریں گے اور بندے اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبت اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا، بندوں کی محبت کا تذکرہ بعد میں کیا۔ ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ وہ میرے مولیٰ! آپ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے؟

### محبت الہی..... زندگی کی گاڑی کا پڑول:

تو میرے دوستو! محبت الہی کی حالت گاڑی کے پڑول کی مانند ہے، جیسے گاڑی ڈیزیل اور پڑول سے چلتی ہے، ایسے یہ محبت الہی ہماری زندگی کا ڈیزیل اور پڑول ہے، جس طرح پڑول کے بغیر گاڑی چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ محبت الہی نہ رہے تو انسان کی زندگی کی گاڑی بھی چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے۔

### محبت الہی کی قدر:

اس محبت کی اگر دل میں قدر ہو تو پھر تو بندہ اپنی جان بھی اس محبت کی خاطر دے دے اور پھر بھی یہ سوچے کہ میں نے یہ محبت سنتی لی ہے۔

— متاع وصل جاناں بس گرائ است  
گر ایں سودا بجا بودے کہ بودے  
اگر یہ سودا مال دے کر بھی حاصل ہو جائے تو پھر بھی ستا حاصل ہو گیا، اگر اللہ  
کی محبت جان دیکر بھی مجھے مل جائے تو بڑی فتحت ہے، اس لئے میں نے اللہ کو اور اللہ  
کی محبت کو حاصل کر لیا۔

کسی نے اللہ کی محبت میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا تو خواب میں اس نے دیکھا  
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ بندے! تو نے جب اتنا کچھ میرے راستے  
میں خرچ کر دیا، اب میں نے اس کے بد لے میں تجھے محبت عطا کر دی تو اس بندے  
نے اٹھ کر شعر کہا، کہتا ہے:

— جمادا چند وازم جان خریدم  
محمد اللہ عجب ارزان خریدم  
کہ میں نے چند ٹھیکریاں دیں، تھوڑے پیسے دیئے اور جان خرید لی، اللہ کی  
قسم! میں نے بڑی ارزان خریدی ہے۔ لہذا جان دے کے بھی اللہ کی محبت مل جائے تو  
دوستو! یہ براستا سودا ہے۔ اس لئے کہنے والوں نے کیا عجیب بات کہی! سبحان اللہ  
اللہ اکبر بکیرا! فرماتے ہیں:

— جان دیتن بروی و در جانی ہنوز  
دردہا دا دی و در مانی ہنوز  
میرے محبوب نے میرے بدن میں سے میری جان نکال لی اور ابھی میری جان  
میں وہ موجود ہے مجھے درد ساری اسی نے دی اور درد کی دوا بھی اسی کے پاس ہے۔

— قیمت خود ہر دو عالم گفتہ ای  
زخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتلائی ہے، اے میرے بندے! اگر مجھے چاہتے ہو تو دونوں جہاں قربان کر دو! تمہیں نہ دنیا کی خواہش رہے نہ آخرت کی خواہش رہے، میں تمہاری تمنا بن جاؤں۔ او میرے بندو! تم میری خاطر دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو جاؤ! اے میرے محبوب حقیقی! قیمت بڑھادیجئے یہ سودا تو آپ نے بڑا استاتا تایا ہے، اللہ اکبر۔

### محبت الہی کیلئے مناجات:

لہذا آج کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگئے۔ جتنی چاہیں مانگیں، مانگنے والے نے تو یہ کہا:

— تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں  
میری سادگی دیکھا کیا چاہتا ہوں؟

ہم آج اللہ تعالیٰ سے اس محبت کی انتہا مانگیں۔ اللہ میں دونوں جہاں دے کر آپ کو لینے کے لئے تیار ہوں، اے میرے مولی! میں اسی کے لئے تو حاضر ہوں۔ اے مالک! میں دل میں یہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوں، اے اللہ! آج میں آپ کی محبت دل میں لوں چاہیں، آپ کی محبت دل میں بھروں گا۔ اے مالک! میں مخلوق کی محبوتوں سے تحکم گیا ہوں، اللہ! میں در در کے دھکے کھا کھا کر تحکم گیا ہوں، اے اللہ! میں نے جگہ جگہ منہ مارا، سوائے حضرت کے مجھے کچھ نہیں ملا۔ اللہ! ایک تیراہی تو در ہے جہاں پچی محبت ملتی ہے، اے اللہ! آج پچی محبت کو لینے کیلئے میں آیا بیٹھا ہوں، میرے مولی میں نے دامن پھیلا دیا مجھے عطا کر دیجیے۔ رب کریم ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ کسی نے حاکم سے پانچ دینار مانگے تھے، حاکم نے اسے پانچ سو دینار دے دیے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مانگنے والے نے پانچ مانگے تو دینے والے نے پانچ سو کیوں دیے؟ اس نے کہا: وہ مانگنے والے کا ظرف تھا، یہ دینے والے کا ظرف ہے۔

اللہ! ہم آج آپ کی محبت مانگتے ہیں، یہ مانگنے والے کا ظرف ہے، اللہ! دینے والے کا ظرف بہت بڑا ہے، آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اے مالک! آج آپ خزانوں کے درکھول دیجئے، ہمارے دلوں میں محبت بھرو دیجئے، اک نگاہ ناز سے اندھا ہمارے دلوں کو تڑپ دیجئے، اللہ! آج ہم میں عبادت کی لذت عطا کرو دیجئے، تلاوت کی لذت عطا کرو دیجئے، بے ذوق سجدے کب تک کرتے رہیں گے! ابے سرور نماز میں کب تک پڑھتے رہیں گے! میرے مالک! آج ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ یا اکرم الاکر میں! یا حکم الحاکمین! یا حنان یا من! آج ہم عجز مسکینوں پہ اپنی رحمت کی نظر فرو دیجئے۔ آج ہم زندگی کا سودا کرنا چاہتے ہیں، اللہ! زندگی میں بڑے سودے کیے مگر کچھ نہیں پایا، آج ایک بڑا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اے مولی! آج ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ! اسکی دنیاوار سے مانگتے، دل میں خیال آتا، پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا؟ آج تو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے مولی! آپ تو مانگنے والوں کو دے کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ! اپنی محبت عطا فرمادیجئے، دلوں کو اپنی محبت سے بھرو دیجئے، غیر کی محبتتوں سے نجات عطا کرو دیجئے، اللہ! دلوں کو دھو دیجئے، اے مالک! ہمیں اپنا دیوانہ بنالیجئے، اپنا مستند بنالیجئے، رب کریم!

شراب محبت پلا دے مجھے  
 تو دیوانہ اپنا بنالے مجھے  
 تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں  
 مردوں تو تیرے فضل سے یوں مردوں  
 رہوں گور میں بھی دیوانہ تیرا  
 نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا

۔ انھوں تو تیری یاد میں پھر انھوں  
غرضِ عشق ہی میں جیوں اور مردیں  
اللہ!! اپنی ایسی محبت دے دیجئے کہ ہم اسی محبت میں زندگی گزاریں، اسی محبت  
میں مریں اور قیامت کے دن اسی محبت میں کھڑے کر دیے جائیں، اللہ! پھر آپ  
ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، اللہ! اس قابل نہیں ہیں، مگر تمہا تو  
ضرور ہے، اللہ!

۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتار کا خیال ہے  
مگر اپنے دل کو میں کیا کروں؟ اسے پھر بھی شوق وصال ہے  
اللہ! اپنی گندگیوں کے باوجود، اپنی کوتا ہیوں کے باوجود اپنی نالائقوں کے  
باوجود، اے، لک!! ہم آپ کا بنتا چاہتے ہیں۔ اللہ! اسی سے گھروں کو چھوڑا، وطن کو  
چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ! دور کا سفر کر کے یہاں پہنچے، تیری تلاش  
میں آئے۔ ع

میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں  
اللہ! تیری دید کی طلب میں میں نے کہاں کہاں کے سفر کئے!! کوئی بسوں میں  
ٹھوکریں کھا کر آیا، اللہ! کوئی گازیوں میں راتوں کو جاگ کر یا، کوئی ہوائی جہازوں  
کے سفر کر کے آیا، اللہ! یہ تیرے بندوں کا مجمع ہے، یہ تیرے تلاش کرنے والوں کا مجمع  
ہے، اللہ! یہ آپ کو چاہتے ہیں، میرے مولی! ان بندوں کو خالی نہ لوٹا یئے گا، اللہ! ان  
کے دلوں کو بھر دیجیے گا، اللہ! یہ وقت زندگی میں پتہ نہیں پھر کب نصیب ہو؟ اللہ! آج  
اس موقع پر ہماری توبہ بھی قبول کر لیجیے اور اللہ!! ہمارے دلوں کو غیر کی محیتوں سے  
دھوڈ دیجیے اور اپنی محیتوں سے دل کو بھر دیجیے اور ہمیں اپنا دیوانہ بن لیجیے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾

ہمیں وَجَلتْ قُلُوبُهُمْ کا مصدقہ بنا بھیے۔ اللہ! ایسا دل عطا کر دیجیے! آپ کا نام سن کر دل تڑپ اٹھے، آذان کی آواز سن کر دل تڑپ اٹھے، نماز پڑھنے سے دل نہ بھرے، تلاوت کرنے سے دل نہ بھرے، اللہ تیری یاد میں لگے رہیں، اللہ! ہمیں بھی اپنی ایسی محبت والی زندگی عطا فرمادیجیے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





﴿كُلُّ إِنْ كُنْتُمْ تُجِيئُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ﴾  
(آل عمران: ٣١)

# محبوب کل جہاں

یہ بیان ۳۰ نومبر کو جامع دارالسلام ناؤن باغ (جھنگ) میں خطبہ  
حمد المبارک سے قبل ہوا۔ جس میں حضرت اقدس رامت برکاتہم  
کے خلفاء کے علاوہ سینکڑوں سالکین نے شرکت کی۔

## اقتباس

چونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام محبوب کل جہاں ہیں،  
اس لئے وہ جمادات کے بھی محبوب ہیں ... نباتات  
کے بھی محبوب ہیں ..... حیوانات کے بھی محبوب ہیں .....  
انسانوں کے بھی محبوب ہیں ..... بلکہ سب کے محبوب  
ہیں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## محب کل جہاں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ إِنَّمَا بَعْدَهَا  
فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
الَّمَّ نَسْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَرَقَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝  
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ۝  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسِّلِّمْ

ایک آئینہ میں شخصیت:

الله رب العزت کے محبوب، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیؒ محبوب کل جہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتوں اور جمال و کمال سے نوازا کہ ہر انسان ان کو اپنی زندگی کا آئینہ میں بنا سکتا ہے۔ چاہے وہ جاہل ہے، چاہے لکھا پڑھا ہے، مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، وقت کا سائنسدان ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کاشتکار ہے، وقت کا حاکم ہے، جوشیل ہے، مجاہد ہے، واعظ ہے یا جو بھی ہے اس کو نبی عليه الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ اور اسوہ میں سکتا ہے۔

نبی عليه الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی ایسی کامل اور مکمل زندگی ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی کامل زندگی نہیں مل سکتی۔ آپ ذرا بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگی کے متعلق پڑھ کر دیکھیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نیوٹن نے یہ کار نامہ سرانجام دیا، آئن شائن نے فلاں میدان میں اپنی عظمت کا لوہا منوا یا اور فلاں نے یہ کر دیا، مگر زندگی نے وفات کی، اگر زندہ رہتا تو کچھ اور بھی کر دکھاتا کیا

مطلوب یہ کہ اس کی زندگی ادھوری تھی۔ وقت کے بڑے سے بڑے جریل کو دیکھیں، لوگ اس کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے فتوحات کیں لیکن ان کی زندگی نے وفات کی، اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو کچھ اور علاقوں پر بھی قبضہ کر لیتا۔ یعنی اس کی زندگی بھی ادھوری ہے۔ اسی طرح آپ جس کی زندگی کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں آپ کو وہ ادھوری نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی وہ کام نہ کر سکے جس کی وہ تمنا رکھتے تھے۔ لیکن تاریخ انسانیت میں صرف ایک مثال ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخصیت اسی بھی تھی جس کی زندگی کامل اور مکمل تھی۔ اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ ایک لاکھ چونیں ہزار صحابہؓ کے مجمع میں علی الاعلان فرماتے ہیں،

”لوگو جس مقصد کے لئے میں دنیا آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟“

کیا میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے؟“

اس کے جواب میں پورا مجمع گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اس امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے محبوب ﷺ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ! تو اس بات پر گواہ رہتا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہ صرف ایک ہی مثال ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور مثال نہیں دے سکتے۔ لوگ اپنا آئینڈہ میل بناتے ہیں۔ بھی اگر کسی کو آئینڈہ میل بنانا ہے تو کامل ہستی کو بناؤ! جن کی زندگی ادھوری، جن کے مقاصد ادھورے اور جن کے کام ادھورے ہوتے ہیں وہ کہاں آئینڈہ میل بن سکتے ہیں!

دعائے ابراہیم علیہ السلام کے مصدق:

جب ابراہیم خلیل اللہ ﷺ نے اللہ کا گھر بنایا تو انہوں نے دعا مانگی:

﴿رَبَّنَا وَابْنَنَا فِيهِمْ رَسُولٌ لَا مِنْهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَيْهِمْ أَيْثِكَ وَيَعْلَمُهُمْ﴾

الْكِتَابُ وَالْحُكْمَةُ وَيُزَكِّيْهِمْ ﴿١٢٩﴾ (آل بقرة: ١٢٩)

یعنی اے پروردگار عالم! ہم نے آپ کا گھر بنایا، اب آپ عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ مسجد ہم نے بنادی، اب آپ عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ مدرسہ ہم نے بنایا، اب آپ علم پڑھانے والی ہستی کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ التدرب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے کائنات میں اپنے محبوب ملئیلہ کو بھیجا لہذا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی دعا کا مصدق بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ذرا غور کیجئے کہ

- گھر بن رہا ہے بیت اللہ

- بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ

- تعاون کرنے والے اسماعیل ذبح اللہ

- جو گھر بن رہا ہے اس کا نام بیت اللہ

- جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کا نام اللہ

اور جس نے آتا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ

### ولادت نبوی مسیح ﷺ کے وقت میں حکمت:

التدرب العزت کے محبوب ملئیلہ مسیح کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند کیا، جب ظلمت چھٹ رہی ہوتی ہے اور روشنی آرہی ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے نام ایک پیغام تھا کہ اے لوگو! اب دنیا سے شرک اور کفر کی ظلمت ہمیشہ کے لئے چھٹ گئی اور بدایت کی روشنی آچکی ہے لہذا اب سورج طلوع ہو چکا ہے جو پوری دنیا میں ایمان اور توحید کو پہنچا دے گا۔

### کسرائی کے محل کے کنگرے ٹوٹنے میں راز:

جب بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو شام کی پہاڑیوں میں روشنی

دیکھی گئی۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں تک وہ روشنی دیکھی گئی، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں اس جگہ تک دین اسلام پھینا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے ذریعے دھنلا دیا کہ میرے محبوب ملئیلہ کی مبارک زندگی میں وہاں تک دین پھیل جائے گا اور بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین ہر پکے اور کچے مکان میں پھینج کر رہے گا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت کسری کے محل کے سُنگرے ٹوٹ گئے اس کا کیا مطلب تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت محل کے جتنے سُنگرے ٹوٹے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک دور میں وقت کے اتنے بادشاہوں کے تاج اللہ کے محبوب ملئیلہ کے قدموں میں آگئے سبحان اللہ!

### والد ماجد کی وفات میں حکمت:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ دنیا سے وفات پا گئے اس میں بھی حکمت تھی۔ التدریب العزت نے ان کے سر سے باپ کا سایہ ہٹا دیا: دیکھیں کہ پچھے کو باپ تربیت دے کر بڑا کرتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی تربیت کی وجہ سے بیٹے نے یہ کام کر دیا۔ اللہ درب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو خود کمالات عطا کئے ہیں کل کو یہ کمالات کسی اور کی طرف منسوب نہ ہوں اور کہنے والے یہی کہیں کہ یہ تھے یتیم، مگر پر دگار نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ انہوں نے وہ کمالات پائے جس کا کوئی دوسرا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ! خود ان پڑھ ہیں مگر دنیا اور کائنات کے واقعہ دان ہیں۔

۔ ای و دقیقہ دان عالم

بے سایہ و سائبان عالم

اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر میں بے سایہ بنایا مگر حقیقت میں پوری انسانیت کے سئے سایہ بن کر تشریف لائے تھے۔

## دوران حمل برکات کاظہور:

ابھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں زم زم کے کنویں پر پانی بھرنے آتی تو پانی سطح زمین سے اوپر کنارے پر آ جاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی اور جب میں واپس چلی جاتی تو پھر پانی نیچے چلا جاتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں کی اور اسی طرح کوئی دوسری شکایت جوان ایام میں عموماً خواتین کو پیش آتی ہے محسوس نہیں کی۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میرے باطن سے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا۔

## حلیمه سعدیہ کے آنکن میں رحمتوں کی بکھیر:

اس زمانے میں بچوں کو پالنے کے لئے دیہاتوں کی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تاکہ بچے کھلے ماحول میں پلے بڑھے اور اچھی زبان سکھے۔ چنانچہ دیہاتوں سے دائیاں آتیں اور بچوں کو لے جاتیں۔ اور ان کے باپ سے اجرت لے کر ان کی پورش کیا کرتی تھیں۔ بنو سعید ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت حلیمه سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں بہت غربت تھی ان کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، گویا قحط سالی کا سماں تھا۔ وہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تاکہ کوئی بچہ وہ بھی لا سکیں اور اس کی پورش کرنے پر کچھ اجرت وہ بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن ان کی سواری بہت آہستہ چلتی تھی، چنانچہ ان کے قبیلے کی باقی عورتیں جددی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں اور انہوں نے امیرزادوں کو اپنی گود میں لے لیا۔

جب حلیمه سعدیہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو ان کو پتہ چلا کہ امیرزادوں کے بچوں کو تو پہلی

دائیاں لے کر چھی گئی ہیں، البتہ ایک میم بچہ بھی باقی ہے۔ ان کے دس میں خیس آیا کہ اس کا باپ تو سر پر نہیں ہے جو اس کی تربیت کرنے کے عوض میں مجھے کچھ دے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بچے کو تو دیکھوں کہ کیسا ہے؟ اس وقت بچہ سویا ہوا تھا اور اس کے اوپر چادر تھی، جب میں نے چادر کو ہٹایا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میرے دل نے کہا، حلیمه! تجھے مال اور دولت ملنے ملے، جو اس بچے کی مسکراہٹ میں گی، وہ تیرے دل کو سکون سے بھرو دیا کریں گی، چنانچہ میں نے بے اختیار بچے کو انھا کر سینے سے لگایا، اب اس کو نیچے لانا کیلئے میرا دل نہیں کر رہا تھا، لہذا میں نے خاوند سے کہا کہ لے کر چلتے ہیں، اس نے بھی کہا نہیں ہے۔

اب ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے لگے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت سواری نیچے بیٹھی تھی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، اب مجھ سے آگے میرے خاوند نیکھنا چاہتے تھے تاکہ سواری کو چلا میں اور ہم گھر جائیں۔ لیکن ایک عجیب بات پیش آئی کہ جیسے ہی میرے میاں آگے بیٹھے اور سواری کو اٹھانے کے لئے اس کی لگام بلائی اور کھینچی تو اس نے انھنے سے انکار کر دیا، وہ اس کو ڈنڈے لگانے لگے مگر وہ انھتی ہی غمیں تھی جبکہ پہلے وہ اشارے سے انھتی تھی۔ چنانچہ پریشانی میں میرے خاوند نیچے آئے، جیسے ہی وہ نیچے اتر آئے سواری انھکر کھڑی ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ پھر میرے خاوند نے اس کو نیچے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھے۔ اب پھر اس نے سواری کو اٹھانا چاہا مگر پھر بیٹھی رہی، پھر وہ پریشانی میں نیچے اترے تو وہ انھکر کھڑی ہو گئی۔ یہی کشمکش جاری تھی کہ آگے بیٹھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلتی نہیں اور جب وہ نیچے اترتے ہیں تو چل پڑتی ہے۔ اس پریشانی میں میرے خاوند نے کہا: حلیمه! تم ذرا آگے بیٹھ جاؤ! اور میں یونچے بیٹھ جاتا ہوں، شاید بوجھ کا کوئی مسئلہ ہو۔

چنانچہ اس نے جب حلیمه کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا اور سواری کو اٹھایا تو اس نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اندر ب العزت نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں اس کی پشت میرے محبوب ﷺ کی طرف ہوتی ہو۔ جب یہ بات تھی تو پھر سواری کیسے چل سکتی تھی؟ چنانچہ کائنات کے اس صدر نشیں کو آگے بٹھایا گیا اور پھر سواری نے چلنا شروع کیا۔ فرماتی ہیں کہ میری سواری نے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کیا کہ دوسری داسیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور میری سواری ان سے آگے نکل گئی۔ جب میری سواری ان کی سواریوں سے آگے نکلنے لگی تو ایک عورت نے مجھ سے پوچھا۔ حلیمه! پہلے تو اتنی دری سے پیچھے تھی اور اب بھاگ کر آگے نکلی جا رہی ہو، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا۔

”میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سواری پر سوار بدل گیا۔“

فرماتی ہیں کہ میں دوسروں سے پہلے گھر پہنچ گئی۔

جب ہم گھر میں پہنچ تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے اور بکریوں کے تھن روزانہ دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ ہمسایوں کی عورتیں آتیں اور مجھ سے پوچھتیں حلیمه! تم اپنی بکریوں کو کہاں چرنے کیجیجتی ہو؟ ہم بھی وہاں بھیجیں گی، ہماری بکریاں بھی زیادہ گھاس کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی۔ فرماتی ہیں کہ ان کی بکریاں بھی وہیں چرتیں، مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہ دیتیں جتنا دودھ میرے گھر کی بکریاں دیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ اللہ کے محبوب کے آنے کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ان برکتوں کے ساتھ اللہ کے محبوب ﷺ کی اس گھر کے اندر پروردش ہوئی۔

**حلیمه سعدیہ کی پر کیف لوری:**

حلیمه سعدیہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب اور

پر کیف اوری دیا کرتی تھیں، وہ فرمایا کرتی تھیں:

**یاربِ إذا أعطیتَه فابقْه**

اے پروردگار عالم! جب تو نے مجھے (حضور مسیح اعلیٰ جیسا بچہ) عطا فرمادیا  
ہے تو اب (مہربانی فرمائے) اس عطیہ کو دوام اور بقا بھی عطا فرم۔

**وَأَغْلِهُ إِلَى الْعَلَاءِ وَأَرْقِهِ**

اور (آپ مسیح اعلیٰ کے درجات و مقامات اعلیٰ میں مزید) ترقی فرمائے بلند یوں کی  
انہائی منزل پر فائز کر دے۔

**وَادْحِضْ أَبَاطِيلَ الْعُدَى بِخَفْهِ**

اور دشمنوں کی (سازش) کو آپ مسیح اعلیٰ کی سچائی، راست بازی اور حق کی تاثیر  
سے بے اثر لائیں اور باطل بنادے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چڑنے کے لئے بھیجنی  
تھیں تو اپنی بیٹی شیما کو ساتھ بھیجا کرتی تھیں۔ ابھی وہ بونگ سے پہلے کی عمر میں تھیں،  
اس لئے وہ اسے بکریاں چرانے کے لئے بھیج دیتی تھیں۔

ایک دن ماں نے کہا: شیما! بہت دیر ہو گئی ہے، تم ابھی بکریاں چرانے نہیں گئی۔

اس نے کہا: امی! میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، یہ مجھ سے نہیں سنجل سکتیں  
میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیج دو! میں گرمی کے موسم میں سارا دن بھاگ بھاگ کر  
تھک جاتی ہوں۔ حلیمه سعدیہ نے کہا: بیٹی گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے۔ جسے آپ کے  
ساتھ بھیجوں، اس لئے آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا: امی! مجھ سے یہ کام  
نہیں ہو سکتا، میں اکیلی بکریوں کو نہیں سنھال سکتی۔ جب ماں نے مجبور کیا تو شیما کہنے  
لگی: امی! میں ایک شرط پر بکریاں چرانے کے لئے جاتی ہوں۔ ماں نے کہا: بیٹی! اکیا  
شرط ہے؟ شیما نے کہا: جی آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد مسیح اعلیٰ کو بھیج  
دیں تو میں بکریوں کے ساتھ چل جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بیٹی! ایک بکریوں کو چڑانا

اور دوسرا بچے کو سنچالنا، یہ دونوں کام بیک وقت کیسے کر پاؤ گی؟ اس نے کہا۔ امی! اگر اکیلی جاؤں گی تو بکریاں نہیں سنچال سکوں گی اور اگر ساتھ بھائی کو لے کر جاؤں گی تو بکریاں سنچال لوں گی۔ پھر حمیدہ سعدیہ نے پوچھا: شیما! ذرا کھل کے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شیما نے کہا: امی! ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چل گئی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تو بکریوں نے تھوڑی دیر میں جلدی جلدی چہرے کے گھاس کھالی اور جس جگہ میں اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھی بکریاں بھی واپس آ کر میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ، محبوب کل جہاں ہیں۔

۔ اے ازل کے حسین! اے ابد کے حسین  
تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں

### اعلانِ ثبوت سے قبل آپ ﷺ کی تکریم:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مردود میں ان سے افضل، اخلاق میں ان سے احسن، میل جوں میں ان سے اکرم، رفاقت میں ان سے اچھے، حلم میں ان سے اعظم، امانت دیانت میں ان سے اصدق اور کوئی نہ تھا۔ آپ نہ اور بری بات کہنے سے بالکل پاک تھے۔ آپ ﷺ کو کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ جنگ و جدال اور خصوصت کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب ﷺ کو ساری قوم صادق اور امین کہتی تھی۔

جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں میں نزاع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ میں نصب کروں۔

چنانچہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ کل جو شخص اب ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی شان کہ سب سے پہلے ان کی نظر اللہ کے محبوب ﷺ پر پڑی۔ حالانکہ اس وقت آپ ﷺ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے آکر عرض کیا کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ فرمادیں۔ اللہ کے محبوب ﷺ نے مجر اسود کو چادر میں رکھا اور چاروں کو نے چار مختلف سرداروں کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور فرمایا کہ آپ اسے مجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلیں۔ جب اس کی جگہ پر لائے تو آپ ﷺ نے کمال داشتندی کے ساتھ خود مجر اسود اٹھا کر اسے نصب فرمادیا سبحان اللہ!

### دل کا سودا کرنے والے:

اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ﷺ کو ایسا نور اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ ﷺ کے مبارک چہرے کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ عبد اللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ اس کو یہودیوں نے کہا۔ آپ ہماری طرف جا کر یہ سوال پوچھیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوی میں سوال پوچھنے کے لئے آئے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب ﷺ کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کی بجائے کہنے لگے: اے اللہ کے نبی! آپ مجھے کلمہ پڑھاویجیے۔ سبحان اللہ۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں چن کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہماری تاک کٹوادی، تم نے یہ کیا کیا کہ تم بھی ان کے ماننے اور چاہنے والے بن گئے؟ جواب میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا:

ذرا اس چہرے کا دیدار تو کرو! یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔  
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پورا پورا جمال ظاہر نہیں

کیا گیا ورنہ آدمی دیکھنے کی تاب نہ لاسکے۔

نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے  
یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے  
اے کاروان شوق! یہاں سر کے بل چلو  
طیبہ کے راستے کا تو کائنات بھی پھول ہے

### عرب کا چاند:

ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے۔ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔  
میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ تشریف فرمائیں۔ اس رات  
چودھویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چنانچہ جب یونچے  
دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا اور جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسان کا چاند نظر آیا۔  
فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دریے کے لئے رک گیا۔ کبھی میں محبوب ﷺ کے چہرہ انور کی  
طرف دیکھا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت  
ہے یا آسان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے  
آسان کے چاند ا تو بڑا خوبصورت سکی، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چہرہ چاہے لیکن  
یقین بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا کے چہرہ انور پر ہے وہ حسن و جمال تیرے  
پاس بھی نہیں ہے۔

— چاند سے تشییہ دنیا یہ کہاں انصاف ہے  
چاند پر ہیں چھائیاں میرے مدینی کا چہرہ صاف ہے

### دیدار پر انوار کی ترٹپ:

صحابہ کرام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عاشق صادق تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے

کہ صحابہ کرام رات کو اپنے گھر اٹھتے تو ان کی طبیعت اداس ہوتی اور محبوب ﷺ کو دیکھنے کو دل چھتا۔ چنانچہ وہ گھر سے آ کر اللہ کے محبوب ﷺ کے دروازے کے قریب کئی کئی گھنٹوں تک اس لئے انتظار میں کھڑے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ پر ہر تشریف لا سیں گے اور ہم اپنے دن کی ابتداء آقا ﷺ کے دیدار پر انوار سے کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا ﷺ کو ایک نظر دیکھنے کے لئے تو پاکرتے تھے۔

### ان کے چاہنے والے ایسے بھی تھے:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بڑی دور سے آ کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ جب بھی آتے تو کچھ دی محبوب ﷺ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے، آپ کا کچھ کلام سنتے اور چلے جاتے۔ متوں تک انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی کلام نہ کیا اور کوئی بات بھی نہ پوچھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو اپنے پاس بلالیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ مجھ سے کوئی نہ کوئی پت پوچھتے ہیں لیکن آپ آتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ جب اپنے گھر سے آتا ہوں تو فقط آپ کے دیدار کی نیت سے آتا ہوں اور یہاں حاضر ہو کر آپ کے پر انوار چھرے سے اپنی آنکھیں سخنڈی کر کے واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر اللہ کے محبوب ﷺ نے فرمایا کہ بندے کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی، وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا (اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا فردیں گے)۔ وہ صحیلی فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا خوشی اس حدیث پاک سے ہوئی، اتنی خوشی مجھے کبھی کسی اور خبر سے نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب ﷺ محبوب کل جہاں ہیں۔

## صدیقہ کائنات کی لازوال محبت:

سیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ زینا تیری سہیلوں نے یوسف عینہ کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کے نکڑے کر دیے، اگر وہ بھی میرے آقا ﷺ کی جنین ناز کو دیکھ لیتیں تو اپنے دل کے نکڑے کر پڑھتیں۔

مولانا محمد قاسم نانو توی ﷺ فرماتے ہیں:

جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا  
وہ دربائے زینا تو شاہد ستار  
رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت  
نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار  
یہی مضمون کسی نے پنجابی میں یوں بیان کیا۔

دیکھیا جے یوسف نوں انگلیاں کٹیاں  
آقا دے دیوانیاں نے جاناں وار سیاں  
عشق دی اخیر دیکھی اوبدے عاشقین دی  
جگ دے حسیناں کو لوں ودھ کے حسین دی

ایک موقعہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا کہ ”میں نے مدینہ طیبہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی وہ حیانیں دیکھی جو میں اپنے آقا ﷺ کی سارک آنکھوں میں دیکھا کرتی تھی“

سیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے اپنے آقا اور سردار کی شان میں اشعار کہے۔ دیکھیں کہ یہوی اپنے سر تاج کی محبت میں سرشار ہو کر کیسے شعر کہہ رہی ہے افرمایا:

لَنَا شَمْسٌ وَ لِلأَفَاقِ شَمْسٌ  
وَ شَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ  
فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ  
وَ شَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

[آسمان کا بھی ایک سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ نہتر ہے۔ اس لئے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے]

### شاعر رسول در مدح جمالِ رَوْل:

سیدنا حسان بن ثابتؑ نے نبی عییہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن و جمال کی ایسی تعریف کی کہ انسان حیران ہجاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

وَ حُسْنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ غَيْنِي

اے محبوب آپ سے بہتر خوب صورت چہرہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔

رَأْجُمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْمَاءُ

اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی عورت نے کوئی بچہ جانا نہیں ہے۔

خُلِقْتَ مُبِرَّةً مِنْ كُلِّ غَيْبٍ

آپ اس طرح عیوبوں سے پاک: و کر دنیا میں پیدا ہوئے۔

كَانَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر پیدا فرمادیا۔

### جمالِ مصطفیٰ امام بومیریؒ کی نظر میں:

ام بومیریؒ اپنے مشہور و معروف قصیدے، قصیدہ برده شریف میں نبی علیہ

الصلوٰۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں  
 فَهُوَ الَّذِی تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ

اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ صورت و سیرت میں عالی مرتبہ پر فائز ہیں  
 ثُمَّ اضطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُّ النَّسْمِ

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب ﷺ بنادیا ہے۔

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ

پوری دنیا میں ان کے محسن کا کوئی شریک نہیں ہے۔

فَجَوْهَرُ الْحُسْنٍ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

حسن و جمال میں اس کا جو ہر ایسا فرد کل ہے جو تقسیم ہی نہیں ہو سکتا۔

### جمادات کے محبوب:

چونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام محبوب کل جہاں ہیں، اس لئے وہ جمادات کے بھی محبوب ہیں۔ نباتات کے بھی محبوب ہیں۔ حیوانات کے بھی محبوب ہیں۔ انسانوں کے بھی محبوب ہیں۔ بلکہ سب کے محبوب ہیں۔

جماعات کے محبوب کیسے ؟

حدیث پاک میں آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے گھر میں دو پتھر تھے۔ ایک کا نام متكلم اور دوسرا کے کا نام متكلی تھا ایک کو متكلم اس لئے کہتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ صدیق اکبر ﷺ کو ملنے تشریف لاتے اور وہ پتھر آپ کو دیکھتا تو فوراً اللہ کے محبوب ﷺ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے محبوب ﷺ نے اس کا نام متكلم رکھا تھا اور دوسرا وہ پتھر تھا جسے متكلی کے طور پر استعمال کر کے اس کے ساتھ دیکھ لگایا کرتے تھے، اس کا نام متكلی تھا۔

## نباتات کے محبوب:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نباتات کے بھی محبوب تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) فرماتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے تھے کہ کتنی جگہوں پر اللہ کے محبوب مسٹر ٹبلے جا کر کھڑے ہوتے اور درخت آکر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سلام کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ درخت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آتے اور سجدہ ریز ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ کے محبوب مسٹر ٹبلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ نیک لگا کر جمعہ کا نسلہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب تمیم داری مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنا کر اللہ کے محبوب مسٹر ٹبلے کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مسٹر ٹبلے! آپ اس پر تشریف فرماء ہوا کریں اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب مسٹر ٹبلے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے بچے کی طرح کی رونے کی آواز سنی، ہم حیران ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب مسٹر ٹبلے نیچے اترے اور جس کھجور کے ساتھ نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے قریب آئے اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا، وہ کھجور کا تنا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ ہچکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے، سبحان اللہ! کھجور کا تنا اس لئے رورہا تھا کہ آقا! اب ممبر بن گیا ہے اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوا کریں گے اور مجھے اب آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ علانے لکھا۔ چونکہ اس تنے کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تھی اس لئے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔

— تنے نے محبت میں آنسو بھائے  
یوں جنت میں پایا مقام۔ اللہ اللہ

## حیوانات کے محبوب:

اللہ کے محبوب حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت الوادع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رمی جمار فرمائی تو اس کے بعد آپ ﷺ نے قربانی کرنی تھی۔ چنانچہ قربانی کرنے کے لئے اونٹ لائے گئے، وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر اونٹ چاہتا تھا کہ اے اللہ کے محبوب ﷺ اجب آپ نے ذبح کرنا ہے تو سب سے پہلے میرے گلے پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے چھری چل جائے۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرلنی کو پکڑا ہوا ہے، جب ہرلنی نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب ﷺ! میرا بچہ اس پھاڑ کے دامن میں ہے، اب اسے دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ نے اس یہودی کو فرمایا.....اس نے دل میں سوچا کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہرلنی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ و ہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہرلنی دودھ پلا کر پھر اس یہودی کے پاس واپس آ گئی۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

## انسانوں کے محبوب:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام انسانوں کے بھی محبوب تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی اکرم ﷺ کے عاشقین کی جماعت تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جب دیدار کرتے تھے تو ان کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔

## زندگی کی آخری تمنا:

ایک صحابی میدان جہاد میں اتنے زخمی تھے کہ غشی طاری ہونے کو تھی۔ اتنے میں ان کے پاس ایک صحابی پہنچے، انہوں نے زخمی سے پوچھا  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَاجَةِ (کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟)  
تو انہوں نے کہا: ہاں۔ پوچھا: کس چیز کی؟ کہنے لگے: میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آخری وقت میں اپنے آقا ﷺ کے چہرہ انور کا دیدار کروں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب ﷺ ایک جگہ پر تشریف فرماتھے۔ انہوں نے اس صحابی کو نیچے کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جی اللہ کے محبوب ﷺ آپ کے سامنے ہیں۔ اس مجاہد نے جیسے ہی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام سناتو آنکھیں کھولیں اور محبوب ﷺ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ختم دی کیس اور پھر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔

— نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے  
یہی دل کی حرث ہی آرزو ہے  
ایک شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا: وہ کہتا ہے کہ وہ صحابی گویا یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے آقا!

— تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا  
میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

## محبوب ﷺ کی شباہت کی تمنا:

ایک صحابی جس کے رہنے والے تھے ان کے بال گھنگھریا لے تھے۔ وہ جب بھی نہاتے تو بعد میں اپنے بالوں میں گھنگھی کیا کرتے تھے۔ چونکہ ان کے بال سخت تھے

اس لئے ان کی ماگ درمیان سے نہیں لٹکتی تھی۔ انہیں روزانہ یہ افسوس ہوتا کہ میری ماگ کیوں نہیں لٹکتی؟ ان کو اپنا سراچھا نہ لگتا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ میرے آقا تو ماگ لٹکاتے ہیں اور میرے بالوں میں تو ماگ ہی نہیں لٹکتی۔ ان کے دل میں بڑی مدت تک یہ حسرت اور تمنا رہی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا ایک مرتبہ انہوں نے لو ہے کی سلاخ اٹھائی اور اسے آگ کے اندر اٹھی طرح گرم کیا اور پھر اسے اپنے سر کے درمیان میں پھیر کے ایک لکیر بنا دی۔ اب جب گرم گرم سلاخ لگی تو سر کی جلد جل گئی۔ لوگوں نے کہا: یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تکلیف تو بھول جائے گی اور زخم بھی مند مل ہو جائے گا، لیکن اس جگہ کے جلنے کی وجہ سے وہاں بال نہیں رہیں گے، چنانچہ آئندہ جب بھی میں اپنے سر کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا سراپنے محبوب ﷺ کے مبارک سر کی مانند نظر آئے گا۔

**سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی نبی ﷺ سے انتہا درجہ کی محبت:**

اگر محبت رسول ﷺ کی انتہا دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ وہ عشق کے امام ہیں، انہیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی مثال کے طور پر:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مجھے تمن چیزیں پسند ہیں: ایک خوشبو، دوسری نیک بیوی، تیسری چیز میری آنکھوں کی خندک نماز میں ہے۔ جیسے ہی یہ سناتو سیدنا صدیق اکبر تڑپ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے محبوب ﷺ! مجھے تمن چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کوئی تمن چیزیں پسند ہیں؟ عرض کیا:

۱) .... اے اللہ کے محبوب ﷺ! آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا۔

۲) .... آپ پر اپنا مال خرچ کر دینا۔

۳) اور یہ کہ میری بھی آپ کے نکاح میں ہے، یعنی میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے۔ اب آپ دیکھئے کہ انسان کے پاس جان، مال اور وقت، تین چیزیں ہی ہوتی ہیں، انہوں نے یہ تینوں چیزوں اللہ کے محبوب ﷺ پر قربان کر دیں۔

جب اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لئے اپنا مال وہ تو سب حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے سوچا کہ ابو بکر ہر دفعہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میرے پاس مال زیادہ ہے اس لئے میں ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا۔ چنانچہ خوش ہو کر گھر آئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑا اور باقی آدھا اللہ کے محبوب ﷺ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ﷺ نے ان سے بھی پوچھا۔ ابو بکر! گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا

اے اللہ کے نبی ﷺ! میں گھر میں گیا تھا، مجھے وہاں جو کچھ ملا، میں نے وہ سب کچھ لا کر آپ کے قدموں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیوار پر ہاتھ مارا کہ کہیں اگر کوئی سوئی ایکلی نظر آئے تو وہ بھی لے چلوں تاکہ کسی مجاہد کے کام آجائے، خود میں نے یہ ثابت کا لباس پہن لیا۔ اور اے اللہ کے محبوب! میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔

۔ پروانے کے لئے شمع، بلبل کو پھول بس  
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

یہ ہے عشق رسول ﷺ

۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ  
یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ

ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ  
اسی کا ہے ، مرتا اسی کا ہے جینا  
زندگی کا مزہ اسی محبت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایسی محبت ہو  
کہ انسان اپنا برا کام اللہ کے محبوب ﷺ کے مبارک طریقے کے مطابق کرنے کے  
لئے تڑپ جائے۔ اسے یہ فکر ہر وقت دامن گیر رہے کہ میرا کھانا، میرا  
پہنچا، میری رفتار، میری گفتار اور میرا کردار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے مطابق  
بن جائے۔ اگر ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر ہمارے بھی نصیب کھل جائیں۔ سیدنا  
اصدیق اکبرؓ کو ایسی ہی محبت نصیب تھی۔ حضرت شیخ الحدیث تعلیٰ تکھتے ہیں کہ  
جس محفل میں سیدنا صدیق اکبرؓ نے پنے مل کی قربانی دی، ابھی اسی محفل میں  
ٹاث کا بس پہنچنے تھے کہ اتنے میں جبریل امین ہبھہ تشریف لائے۔ انہوں نے  
بھی ٹاث کا لباس پہن رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

جبریل! آج تم نے ٹاث کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟

جبریل امین نے عرض کیا: اے اللہ کے محبوب ﷺ آج ابو بکر کے اس عمل پر  
اللہ تعالیٰ اس قدر رخوش ہوئے ہیں کہ آئن کے سب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی  
ابو بکرؓ کی طرح ٹاث کا لباس پہن لو۔ مزیدہ برآں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی طرف سدم  
بھیجی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنے قدر دان ہیں!

☆ .. جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھرت فرمائی تو آپ ﷺ رات کے وقت  
سیدنا صدیق اکبرؓ کے گھر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جیسے ہی  
دستک دی وہ فوراً باہر حاضر ہوئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے ہی جگ رہے تھے یہ  
ہوں۔ اللہ کے محبوب ﷺ نے پوچھا: ابو بکر! کیا آپ پہلے سے جگ رہے تھے یہ  
میرے آنے پر جائے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی ﷺ میں پہلے سے ہی جگ رہا تھا

کیونکہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جب آپ بھرت فرمائیں گے تو اس خادم اور خادمہ بھی ساتھ لے جائیں گے، چنانچہ جب سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایمان ہو کہ میرے محبوب مولیٰ نہ میرے دروازے پر آئیں اور ان کو ابو بکر کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے۔

☆ . ایک مرتبہ سیدنا صدیق اَبْرَاهِیمؑ مسجد میں بیٹھے رو رکر دعا مانگ رہے تھے۔ اے اللہ اکرم محبوب مولیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو اور میں دینا چاہتا ہوں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، میں اپنے آقا مولیٰ کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، آپ میرے آقا مولیٰ کے دل میں ذال دیجئے کہ وہ ابو بکر کے ماں کو اپنے ذالتِ دل کی طرح استعمال فرمائیں۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے دل کو اس طرح استعمال فرماتے تھے جس طرح کوئی اپنے ذالتِ دل کو استعمال کیا کرتا ہے۔

☆ . جب بھرت کے سفر پر چلتے تو سیدنا صدیق اَبْرَاهِیمؑ کبھی دائیں طرف کو ہو جاتے کبھی باعیں طرف کو ہو جاتے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حیران ہو کر پوچھا: ابو بکر آپ ایک طرف چلیں، یہ دائیں باعیں اور آگے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا:

اے اللہ کے محبوب مولیٰ نہ! جب میں آپ کے پیچھے چل رہ ہوتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے حملہ کر دے، اس لئے میں دائیں طرف کو جاتا ہوں کہ ادھر سے اگر کوئی تیر آئے تو ابو بکر کے جسم میں لگے وہ میرے آقا مولیٰ کی حفاظت رہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں سامنے سے تیرنا جائے اس لئے میں کبھی باعیں طرف آ جاتا ہوں اور کبھی پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں۔

سبحان اللہ! جیسے کوئی پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے پیارے اور محبوب بندے سیدنا صدیق اکبر رض شمع رسالت کے پروانے بن کر سفر کر رہے تھے۔

☆ جب غار ثور میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رض پہنچے اندر گئے اور سرے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رکھ گیا، اس کو بند کرنے کے سے صدیق اکبر رض نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ و آله و سلم اندر تشریف لائے تو عرض کیا: آقا آپ تھکے ہوئے ہیں آرام فرم لیجیے، یہاں بستر تو نہیں ہے، اللہ کی زمین بستر بنے گی، البتہ نجیکے کے سے ابو بکر کی گود حاضر ہے۔

دنیا میں دو گودیں تھیں جن کو محبوب صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے شان بخشی۔ ایک گود صدیق اکبر رض کی تھی اور دوسری گود صدیقہ کائنات حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے تشریف لے چنے گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا مبارک سر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ ایک گود میں سر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا مقام معط فرمادیا اور دوسری گود میں سر رکھا تو صدیقہ کا مقام معط فرمادیا، اللہ اکبر بکیرا۔

اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و آله و سلم آرام فرمائے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رض ان کے چہرے کے انور کا دیدار کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رض کو منا طب کر کے فرماتے ہیں۔

ابو بکر جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا مبارک سر تھا، اس وقت آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک حل کی مانند ہے اور آقا صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا چہرہ انور کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے اور ابو بکر آپ مجھے ایک قاری مگر رہے

ہیں جو بیٹھ کر اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ( سبحان اللہ ) ایک طرف حسن رسول ﷺ ہے اور دوسری طرف عاشق صدقہ ہے۔ آج کا طالب ممکن کہتا ہے کہ مجھے فدی سے تعلق ہے، جب میں کتاب کھولتا ہوں تو مجھے اس کی شکل نظر آتی ہے وہ کہتا ہے۔

— کتاب کھول کے بینھوں تو آنکھ روئی ہے  
ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے  
اور ادھر سیدنا صدقہ اکبر ﷺ کی تشریف فرمائیں اور اللہ کے محبوب ﷺ کے رخ انور کے دیدار سے آنکھیں خندی کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے اس کو عجیب انداز میں کہا۔

— یہ حسن ساتھ عشق کے کیا ل جواب ہے!  
رکھی ہوئی حسن پر خدا کی کتاب ہے  
اس وقت اس غار میں ایک سانپ تھا جو محبوب ﷺ کا دیدار پر ہتا تھا۔ اس کو نکلنے کے سئے کوئی اور جگہ تو نہ ملی البتہ جہاں سیدنا صدقہ اکبر ﷺ نے پاؤں رکھا بوا تھا اس نے وہیں سے ڈس، جب سانپ کا زبر جسم میں داخل ہوا تو سخت تکلیف کی شدت کی وجہ سے سیدنا صدقہ اکبر ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آگئے۔ وہ آنسو آقا ﷺ کے مبارک چہرے پر گرے جس کی وجہ سے آقا ﷺ کی آنکھ کھل گئی پر مسیح ﷺ نے پوچھا۔

ما یسکیک یا ابابکر ۰ ابو بکر کیوں رورہے ہو؟

سیدنا صدقہ اکبر ﷺ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب ﷺ مجھے اس طرح تکلیف ہوئی ہے اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ شعر نے اس منظر کو عجیب انداز سے کہا

آنو گرا ہے رونے رسالت ماب پر  
 قربان ہونے آئی ہے شبتم گلب پر  
 مدینہ طیبہ کے قریب ایک بوزہمی عورت رہتی تھی، اس کے گھر میں بکریاں تھیں۔  
 وہ اتنی بوزہمی بکریاں تھیں کہ دودھ بھی نہیں دیتی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رض نے جا کر  
 کہا، اماں کیا ہم ان بکریوں کا دودھ لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا: اے انجمنی مسافر! یہ  
 بکریاں تو دودھ نہیں دیتیں۔ صدیق اکبر رض نے کہا: اماں! اب آپ اجازت دے  
 دیجیے۔ اس نے کہا: آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر رض بکریوں  
 کے پاس آ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ حدیث پاک  
 میں آیہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رض نے احتیاطاً دودھ کے برتن پر کپڑا اڈال دیا تاکہ  
 لے جاتے ہوئے دودھ میں گرد وغیرہ نہ پڑے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش  
 فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رض نے ایک عجیب جملہ کہا:

### فَشَرِبَ شَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيَ

[ابن علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا]

تو یوں کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا دودھ پیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، لیکن یہاں  
 معاملہ جدا ہے، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ میرا دل  
 خوش ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔

☆ سیدنا صدیق اکبر رض کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے  
 مشاہد نصیب ہو چکی تھی، اسکو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ  
 طیبہ پہنچنے تو دہاں کے دید و داش رکھنے والے لوگ ان کے استقبال کیلئے آئے ہوئے  
 تھے۔ انہوں نے دہستیوں کو آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ ان کی رفتار ایک جیسی،  
 ان کے بہاس ایک جیسے، ان کے چہرے پر فورانیت تھی، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں

سے کون اللہ کے پیغمبر ہیں! ان میں ایک آقا ﷺ تھے اور دوسرے غلام۔ ان میں سے ایک اصل تھے اور دوسرے ان کی نقل تھے۔ مگر نقل نے اصل کے اتنا قریب کا مقام پیدا کر لیا تھا کہ مدینہ کے لوگ اصل اور نقل میں فرق بھی نہ کر سکے۔ پرانے چل سکا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے اور متبع کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا صدیقؑ اکبرؓ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ صدیقؑ اکبرؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس نیت کے ساتھ مصافحہ کرتا رہا کہ میرے آقا تھے ہوئے آر ہے میں اگر سب لوگ مصافحہ کریں گے تو میرے آقا کو بے آرامی ہوگی، لہذا جب یہ مصافحہ کر لیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا۔ چنانچہ جب سب سے مصافحہ کر لیا اور بیٹھ گئے اور اوہر سورج نے اپنا چہرہ دکھایا اور اس کی کرنوں نے محبوب ﷺ کے مبارک خساروں کے بو سے لیتا شروع کر دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن سے انہوں نے وقت کا نبی سمجھ کر مصافحہ کیا تھا وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے آقا ﷺ کے سر پر سیاہ کر دیا۔ تب مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ آقا کون تھا اور غلام کون تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملنے کے لئے آتے تو صحابہ کرام کے مجمع کی نورانیت اتنی ہوتی تھی کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا۔ کہ من منکم محمد؟ آپ میں سے اللہ کے رسول ﷺ کون ہیں؟ ان سب حضرات کے چہروں پر اتنی نورانیت ہوا کرتی تھی۔

### حضرت اسماءؓ کے دل میں محبوب خدا کی محبت:

چھوٹی بچیوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کی اتنی محبت تھی کہ سیدہ اسماء (رضی اللہ عنہا) جو سیدنا صدیقؑ اکبرؓ کی بڑی بیٹی تھیں ان کے ذمے ذیولی لگی کہ غار ثور کے قیام کے دوران گھر سے کھانا پہنچادیا کریں، کیونکہ آپ اس وقت اتنی چھوٹی تھیں کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا کہ آپ کھانا دے کر آ رہی ہیں۔ چنانچہ

پہلے دن انہوں نے کھانا پہنچا دیا۔ جب دوسرے دن کھانا پہنچانے آئی تو اللہ کے محبوب ﷺ نے دیکھا کہ اس وقت حضرت اسماء (رضی اللہ عنہا) کے ماتھے پر زخم کا نشان ہے اور ان کی طبیعت اداس اور غمزدہ ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارش دفر مایا: اسماء آج آپ غمزدہ لگ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اسماء نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جارہی تھی تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا: ابو بکر کی بیٹی انجھے پتا ہو گا کہ جہاں تمہارا باپ ہے وہیں اللہ کے رسول ہوں گے، بتاؤ! کیا تمیں پتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے سچ بولا اور میں نے کہا: بہاں پتا ہے۔ اللہ نے سچ بوا یا، اگر وہاں کوئی اور ت کرو یعنی تو لوگ کہتے کہ اگر ایک بہن ایسا کہہ سکتی ہے تو دوسری بہن بھی جھوٹ بول سکتی ہے۔ نہیں بلکہ صدقیقہ کی بیٹی ہے اور صدقیقہ کی بہن ہے۔ لہذا کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟

ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفت  
یہی رہا ہے ازل سے قلندرؤں کا طریق

چنانچہ سیدہ اسماء (رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ میں نے سچ بولا اور کہ کہ بہاں مجھے پتا ہے۔ ابو جہل نے کہا: بتاؤ! میں نے کہا: میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑا ماروں گا، اس طرح اس نے بہت ذرا یاد ہمکایا لیکن میں بھی ذلی رہی کہ میں نے نہیں بتانا۔ پھر اس نے اچانک اتنا ذرور سے تھپڑ گایا کہ میں نیچے چٹان پر جا گری اور میرے ماتھے سے خون نکل آیا اور میری آنکھوں سے آنسو آگئے۔ اے اللہ کے محبوب ﷺ! اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پھر کھڑا کیا اور کہنے لگا: اسماء! میں تجھے جان سے بردوس گا، بتاؤ! تمہارے رسول ﷺ کہاں ہیں۔ اس وقت جواب دیا: ابو جہل! میری جان تو تیرے حوالے ہیں لیکن میں محمد عربی ﷺ کو تیرے حوالے نہیں

کروں گی۔

### ایک صحابیہ کی محبت:

اللہ کے محبوب ﷺ کے ساتھ عورتوں کو بھی بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لئے تیاری کیجیے امداد کے ہر گھر میں عورتیں اپنے مردوں کو تیار کر رہی تھیں۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، ان کے خاوند پہلے شہید ہو چکے تھے۔ ہذا اب گھر میں کوئی بڑا مرد نہ تھا جس کو تیار کر کے جہاد کے لئے بھیج سکیں۔ چنانچہ بچے کا چہرہ دیکھ کر ورنے لگیں کہ اگر کوئی بڑا مرد بہوت تو میں بھی اسے تیار کر کے آقا ﷺ کی خدمت میں بھیجن۔ روتے روتے جب ان کی طبیعت بہت بلکان ہوئی تو اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور آقا ﷺ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہو میں اور آپ ﷺ کی گود میں اپنے بیٹے کوڈاں کر عرض کرنے لگیں۔ ”اے اللہ کے محبوب ﷺ آپ میرے بیٹے کو جہاد کے لئے قبول فرما لیں۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے فرمایا

یہ چھوٹا بچہ جہاد کیسے کر سکتا ہے؟

کہنے لگیں: ”اے اللہ کے محبوب ﷺ! جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے، وہ مجہد لڑنے کے لئے جائے گا، اور سامنے سے دشمن تیروں کی بارش بر سامنے گا تو مجاہد تیروں سے بچنے کے لئے میرے بیٹے کو آگے کر دے، اس طرح میرا بیٹا شہشیر کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔“

سبحان اللہ اصحابیات کے دل میں اللہ کے محبوب ﷺ کی اتنی محبت تھی۔

### ایک واقعہ جس نے صحابہ کرامؐ کو تڑپا دیا:

ایک مرتبہ اللہ کے محبوب ﷺ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے مجمع میں تشریف

فرمتعے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بھی اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو وہ آکر مجھ سے بدلے لے سکتا ہے۔ جب تی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) پر سخت طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی کیسے بدلے لینے کی جرأت کر سکتا تھا! مگر ایک دیوانہ کھڑا ہو کر کہنے لگا: اے اللہ کے محبوب ﷺ! آپ کے اوپر میرا حق آتا ہے، اللہ امیں آپ سے بدلے لینا چاہتا ہوں۔ تی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا، مجھ پر آپ کا کون حق ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! ایک مرتبہ آپ میدان جہاد میں صفائی درست کروارے ہے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے مجھے کہا کہ ذرا پچھے ہو جاؤ، جب آپ نے وہ چھڑی میرے بدن کے ساتھ لگائی تھی تو وہ مجھے چھپی تھی اور تکلیف ہوئی تھی، اس لئے میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے۔

اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی چھڑی لے لیں اور جیسے میں نے کیا تھا آپ بھی کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! اس وقت تو آپ کے مبارک بدن پر کرتہ ہے اور اس وقت میری کمر پر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، تو میں کیسے بدلے لوں۔ اب تی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی پشت مبارک سے اپنے کرتے کو ہٹا دیا۔۔۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ ہاتھ میں اپنی چھڑی لے کر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں بدلے لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رض کا دل تڑپ اٹھا، چاہتے ہیں کہ اس سے جا کر کہیں کہ بھی ابو بکر کا جسم حاضر ہے، جتنی چاہتے ہو ضریب میں لگا دا! سیدنا عمر رض بھی کھڑا ہوتا چاہتے ہیں، مگر ادب کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور یہ بات بھی میں نہیں آرہی کہ یہ دیوانہ کیسے بدلے لینا چاہتا ہے؟ وہ بدلے لینے پر ٹل گیا اور محبوب ﷺ بدلہ دینے پر ٹل گئے۔۔۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے اپنی پشت مبارک سے اپنے کرتے کو ہٹایا تو وہ قریب ہوا۔ اس نے چھڑی کو زمین پر ڈال دیا اور آقا

مئینہ کی مہربوت کو بوسہ دے کر آقا کی پشت مبارک کو اپنے سینے سے لگایا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محظوظ! میرے دل میں حدت سے یہ تمنا تھی کہ میں آپ کی ختم نبوت کو بوسہ دوں، مجھے کوئی موقع نہیں ملتا تھا، جب آپ نے فرمایا کہ بدله لے لو تو میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے بخت جاگ گئے، اب تجھے آقا کی مہربوت کا بوسہ لینے کا موقع مل گیا ہے۔ ورنہ یہ غلام کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ آقا سے بدله لینے کے لئے کہہ سکے! اللہ اکبر۔

### محبوب خدا ﷺ کی محبت بھری دعا:

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے۔ آپ کے خالم حضرت ثوبان رض آپ کے قریب آگئے انہوں نے سنا کہ اللہ کے محظوظ محبوب ﷺ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ اے اللہ! مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ جب اللہ کے محظوظ ﷺ نے دعا مانگ لی تو حضرت ثوبان رض قریب آکر بھدا دب عرض کرتے ہیں یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا، تو آپ کا یہ دعا مانگے کا کیا مقصد ہے؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثوبان! تمہارے دلوں میں بھی میری بڑی محبت ہے، مگر تم تو جریل حجه کو آتے دیکھتے ہو، قرآن اترتے دیکھتے ہو، میرے چہرے کا دیدار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہری محبت بھی بڑی قیمتی ہے، مگر میری اس امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب مجھے اس دنیا سے پردہ کیسے سینکڑوں سال گزر جائیں گے، پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہو گا، وہ اپنے علماء سے میری باتیں سن کریں گے، وہ اپنے علماء سے میرے حسن و جمال کی باتیں سینیں گے تو ان کے دلوں میں میری ایسی محبت پیدا ہو

جائے گی کہ وہ میری محبت کی وجہ سے تڑپا کریں گے۔ وہ ہر ہر کام میرے طور طریقے کے مطابق کیا کریں گے اور وہ میری ملاقات کے لئے اداس ہوا کریں گے۔  
اے ثوبان! ان کے دل میں میری آتی محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو بچ کر بھی میرا دیدار کر سکتے تو وہ اپنی اولاد کو بچنے پر بھی تیار ہو جاتے۔ میں ان کے لئے دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ! مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔  
سبحان اللہ! سبحان اللہ!

اس لئے آج جس کے دل میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت ہوگی اور آپ ﷺ کی ایک ایک سنت کا عاشق ہو گا، جو آپ ﷺ کے غم کو اپنا غم بنالے گا اور جو آپ ﷺ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لئے کمر بستہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ قیامت کے دن آقا ﷺ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے اور اپنے جہنڈے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب ﷺ کی ایک ایک سنت سے اپنے ظاہر کو سجاویں اور اپنے باطن میں ان کی تعلیمات میں نور اتارنے کی کوشش کریں۔ اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیغمبر تو یہی عرض کریں کہ۔

— تیرے محبوب کی یارب ثباتت لے کے آیا ہوں  
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں  
پھر دیکھنا کہ اس دن اس کی اللہ رب العزت کے ہاں کیا قیمت لگے گی اور کیا مقام ملے گا! کسی کہنے والے کہا۔

— کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں  
یہ جہاں چیز ہے کیا! لوح و قلم تیرے ہیں



بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ  
— قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے  
دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے  
اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ ہمیں بھی دین کی ان تعلیمات کو مشرق سے مغرب اور شمال سے  
جنوب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمادے۔ اور ہمیں آئندہ اپنی زندگی شریعت و سنت  
کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمادے (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.





﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْتُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾  
 (النساء: ١٣٦)

# ایمانی زندگی کے تقاضے

یہ بیان 26 ستمبر 2005ء 1426ھ کو بعد از نماز فجر جامع مسجد  
 نہبہ مسجد الفقیر الاسلامی جھنگ میں گیارہویں سالانہ  
 نقشبندی اجتماع کے موقع پر ہوا۔

## اقتباس

تو معلوم ہوا کہ زبان سے ان کلمت کو پڑھیئے سے، کلمہ پڑھ لینے سے انسان، اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے لیکن ایمان کامل دل میں آجائے اس کے لیے کوئی اور درجہ بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اس کلمہ کی محبت بیٹھ جائے اور دل تسلیم کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اب جو حکم خدا ہو گا وہ میرے اس جسم کے اوپر لا گو ہو جائے گا، یہ تصدیق بالقلب ہے۔ اس کارتہ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔

(حضرت مولانا ناصر ذوالفقار احمد قشنبہ دی مجددی مدظلہ)

## ایمانی زندگی کے تقاضے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِمَّا نَعْدُ  
فَأَغْوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْتُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ۝  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ  
مُؤْمِنُوں کو ایمان لانے کا حکم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اٰءِ ایمان وَالو! امْتُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اند تعالیٰ اور اسکے  
رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ! اس آیت میار کہ میں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا  
ہے اور ان کو حکم لرہا ہے امْتُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے  
رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کافروں سے خطاب نہیں،  
مشرکوں سے خطاب نہیں، منافقوں سے خطاب نہیں، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَأْفَقُوا۔ نہیں کہا۔ خطاب کن  
کو ہے؟ يَا ایها الذین آمنوا! اے ایمان والو! اور حکم کیا ویا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ  
اور اسکے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ۔

مفسرین نے اس کا معنی لکھا اتَّقُوا کہ تقوی اختیار کرو۔ بعض مفسرین نے  
فرمایا کہ اے زبان سے ایمان لانے والو! اپنے دل سے بھی اس کا اقرار کرو۔ چونکہ

ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، تو مقصود یہ تھا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والا تم دل سے بھی اس کی تصدیق کرلو۔

### تصدیق بالقلب کا مطلب:

اس اقرار باللسان میں تو ہم سب شامل ہیں، لیکن تصدیق بالقلب کا درجہ ذرا مشکل ہے کہ دل بھی تصدیق کر دے۔ آج زبان تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے مان لیا مگر دل کی حالت وہ نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کہا۔

— تو عرب ہے یا جنم ہے تیرا لا الہ الا  
لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی  
جب تک دل گواہی نہ دے، زبان سے نکلے الفاظ لغت غریب کی مانند ہیں۔

— خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل  
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں  
تو دل کا گواہی دینا زیادہ اہم ہے۔ اس لئے کہ انسان سر کے بالوں سے لے آر پاؤں کے ناخنوں تک مومن بن جائے، مسلمان بن جائے، اس درجہ کو پانے کے لئے بڑی محنت کرتی پڑتی ہے۔

چند دیہاتی لوگ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور انہوں نے احسان جتدیا کہ اب تو ہم مومن بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات کو صاف کر دیا۔ فرمایا:

﴿قَالَتِ الْأَغْرَابُ أَهْنَاقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾

[اغرابوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرماد تھے کہ تم ایمان نہیں  
[اے]

﴿وَلِكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَذْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

(جرات: ۱۲)

(بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا)

تو معلوم ہوا کہ زبان سے ان کلمات کو پڑھ لینے سے، بلکہ پڑھ لینے سے انسان، اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے لیکن ایمان کامل دل میں آجائے اس کے لیے کوئی اور درجہ بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اس کلمہ کی محبت بیٹھ جائے اور دل تسلیم کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اب جو حکم خدا ہو گا وہ میرے اس جسم کے اوپر لاگو ہو جائے گا، یہ تقدیق بالقلب ہے۔ اس کا رتبہ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔

— یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے  
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

بلکہ فارسی میں کسی نے کہا:

— چوں می گویم مسلمانم بلزم  
کہ دانم مشکلات لا اللہ إلا

[جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا اللہ إلا اللہ کہنے کی مشکلات کو جانتا ہوں]

چنانچہ زبان سے اقرار پہلا قدم ہے اور دل سے تقدیق یہ دوسرا قدم ہے۔

**عمل دل کی حالت کا آئینہ دار ہے:**

اب کیسے پتہ چلے کہ زبان سے لا اللہ إلا اللہ کہنے والا اپنے قول میں چاہبھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جزاۓ خیر دے اس امت کے علماء کو کہ انہوں نے پتہ صاف کر دیا،

انہوں نے اس کی تعریف یوں کی:

الْإِيمَانُ إِفْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ  
[کے ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے  
اعضاء سے اس پر عمل کرنا]

یہ جو اعضاء سے اس پر عمل کرنا ہے، اس سے فوراً انسان کا جواندہ ہے وہ کھل  
جاتا ہے، ذھول کا پول کھل جاتا ہے، درگی سامنے آ جاتی ہے، انسان کا عمل تصدیق  
کر دیتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔

### بناوی خوف:

چنانچہ با بیزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص برا صوفی صافی بنتا  
تھا، ایک مرتبہ جو امام مسجد تھے وہ آئے سکے، کوئی عذر تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ جی  
آپ نماز پڑھا دیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ بھی میں تو نہ نہیں پڑھاتا، پوچھا کیوں؟ کہنے لگا  
کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں نماز شروع کروں اور میری موت آ جائے اور میں نماز مکمل  
ہی نہ کر سکوں۔ لوگوں نے کہ کیا بات ہے! ایسی کیفیت کہ نماز شروع کریں تو یہ خوف  
ہے کہ موت نہ آ جائے اور نماز مکمل نہ ہو سکے۔ تو لوگوں نے کہ کہ نہیں آپ  
پڑھا دیجیے۔ وہ راضی ہو گیا اور کہنے لگا اچھا میں یہ نماز تو پڑھا دیتا ہوں، اگلی نماز نہیں  
پڑھاؤں گا۔ تو بیزید بسطامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر گریبان سے پیچھے کیا، فرمایا کہ تو  
بناوی بندہ ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا خوف غالب ہے کہ نماز شروع  
کروں تو پتہ نہیں مکمل بھی کر سکوں گا یا نہیں اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اگلی نماز نہیں پڑھاؤں  
گا، کیا اگلی نماز تک زندہ رہنے کا یقین ہے؟ تو انسان کا عمل دل کی حالت کھوس دیتا  
ہے۔ یہ بناوت چل نہیں سکتی۔ اسی لئے جسم کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ دل کی  
حالت کیا ہے؟

## مُؤْمِنُ اور غَيْر مُؤْمِنٍ میں فرق

مُؤْمِنُ اور غَيْر مُؤْمِنٍ میں چند بُنيادی فرق ہیں:

مُؤْمِنٌ بن دِيْكَحَهُ مَانِتَابِهِ، كَافِرٌ دِيْكَحَهُ كَرِمَانِتَابِهِ:

پہلا فرق تو یہ کہ مُؤْمِنٌ بن دِيْكَحَهُ مَانِتَابِهِ اور غَيْر مُؤْمِنٍ یعنی کافر، وہ دِيْكَحَهُ کرِمَانِتَابِهِ ہے۔ چنانچہ مُؤْمِنٌ اپنی زندگی میں سب کو مان لیتا ہے۔ کیوں؟ یُؤْمِنُوا بِالْغَيْبِ بن دِيْكَحَهُ مان لیا اور غَيْر مُؤْمِنٍ جب موت کے وقت اس کی آنکھوں کا پر دہ کھلتا ہے۔

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق: ۲۲)

[پس ہم نے تجھ سے تیرا پر دہ دور کر دیا، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے]  
تو جب وہ سامنے دیکھتا ہے پھر مان لیتا ہے۔

چنانچہ فرعون نے کیا کیا؟ اپنی موت کے وقت کہنے لگا

﴿آهَنْتُ بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

(میں موکی اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں)

جو ساری زندگی خود خدائی کا دعویٰ کرتا پھرا، اب موت کے وقت وہ خود ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اس کو فرمایا گیا: الآن اب ایمان لائے، اب توبہت دیر ہو گئی، اب تو چونکہ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ایمان والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس مشاہدہ شروع ہو گیا، تو ایمان اور مشاہدہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں اور مشاہدہ دیکھ کر ماننے کو کہتے ہیں۔ تو مُؤْمِنٌ جس چیز کو بن دیکھے مانتا ہے، غَيْر مُؤْمِنٌ اسی چیز کو دیکھ کر مان لیا کرتا ہے۔

مُؤْمِنٌ بِخُوشِي مَانِتَابِهِ، غَيْر مُؤْمِنٍ مُجْبُرٌ اماَنَّهُ:

چنانچہ مُؤْمِنٌ جس چیز کو اس دنیا میں بخوشی مانتا ہے، غَيْر مُؤْمِنٌ اسی چیز کو ایک وقت

آئے گا کہ مانے گا، مگر مجبور ہو کر۔ چنانچہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے۔ اور کیا کہیں گے؟

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقْتُونَ﴾

(السجدة: ۱۲)

[اے ہمارے رب! آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دیجیے، اب ہم نیک عمل کریں گے ہمیں اس بات پر پکا یقین آگیا ہے]

تو مومن نے زندگی میں بخوبی مانا اور کافرنے قیامت کے دن مجبور ہو کر مانا۔

بروز قیامت کافر کو حسرت ہوگی، مومن مسرور ہو گا:

تمیرا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے:

رَبَّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقَوْتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (مومنون: ۱۰۶)

[اے ہمارے پروردگار! ہم پر بد نختی غالب آگئی اور ہم گمراہ ہو گئے]

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُذْنَا فِي أَنَا ظَالِمُونَ (مومنون: ۱۰۷)

[اے اللہ! ہمیں اس سے نکال دیجیے اگر ہم لوٹ کر پھر برے عمل کریں تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں]

تو قیامت کے دن کافر لوگ مجبور ہو کر ہر اس چیز کو تسلیم کریں گے، جس کو مومن اسی دنیا کے اندر بخوبی تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ مومن یہ کہتا ہے: اے پروردگار!

إِنَّا سَمِعْنَا هُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا

[اے اللہ! ہم نے آپ کے منادی کو سنایا جو آواز لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے]

تو مومن کا درجہ التدریب العزت کے ہاں اسی لئے بڑا ہے کہ وہ بن دیکھے، بخوشی ہر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے جس کو قیامت کے دن کافر مجبور ہو کر اور دیکھ کر تسلیم کریں گے۔

### انسان کی قیمت:

اسی لئے التدریب العزت کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ دیکھیں! انسان چند عناصر سے مل کر بننا: آگ، پانی، ہوا اور منی۔ انسان جن اجزاء سے مل کر بننا، اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو وہ پانی ہے، کاربن ہے، آسیجن ہے اور ناٹروجن ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انسان اماں نو ایسڈ سے بننا، اگر ان تمام عناصر کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے لگائی جائے تو ایک انگریز سامنہ دان رابرٹ پیٹرنس نے کہا کہ ”انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت ساڑھے چھ ڈالر ہے“، یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بننا ان عناصر کی کل قیمت ساڑھے چھ ڈالر ہے۔ اگر ایمان الگ ہو جائے تو انسان کی کیا قیمت ہی؟ ساڑھے چھ ڈالر! کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جس نے اتنی بے قیمت چیزوں سے اتنا قیمتی انسان پیدا فرمادیا، تو انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔

### پروردگار کی عظمت:

آپ گائے کو دیکھیں، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی میشیں بنا سکتا ہے جس کے اندر چارہ ڈال دیا جائے اور پانی ڈال دیا جائے، پھر اس میں سے دودھ نکل آئے؟ شہد کی مکھی کو دیکھو! وہ بھی پھولوں کا رس چوتی ہے اور اس میں سے شہد لکھتا ہے، کیا انسان کوئی ایسی میشیں بنا سکتا ہے کہ جس

میں ایک طرف سے پھول ڈال دیئے جائیں اور دوسری طرف سے شہد نکل رہا ہو؟ انسان ایسے نہیں کر سکتا۔ ریشم کا کیڑا بھی شہتوت کا پتہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس میں سے ریشم نکلتا ہے۔ بکری بھی شہتوت کا پتہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ آپ سوچیں کیا انسان ایسی مشینیں بناسکتا ہے کہ شہتوت کے پتے ڈالیں، پانی ڈالیں، ایک طرف سے ریشم بن کر نکل رہا ہو اور دوسری طرف سے دودھ بن کر نکل رہا ہو؟ نہیں، انسان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ پورا گارکی عظمت دیکھیے کہ اس نے کیسے جاندار بنادیے! جو کتنی کم قیمت چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزوں کو وہ اپنے جسم سے نکالتے ہیں۔

### انسان کی اوقات:

اب اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں، فقط جسم موجود ہے، تو یہ کھاتا کیا ہے؟ پھل کھاتا ہے، کتنی خوشگوار غذا ایسیں کھاتا ہے اور پھر اپنے جسم سے نکالتا کیا ہے؟ ایسی بدیودار چیز کہ انسان اس کو پاس کھڑا ہو کر سونگ نہیں سکتا، نجاست، گندگی۔

ایک اللہ والے گزر رہے تھے، گندگی کا ذہیر قریب آیا تو وہ رونے لگ گئے، کسی نے کہا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس گندگی کے ذہیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کلام کیا اور یہ کہا کہ اے انسان! ذرا اپنی اوقات کو پہچان، میں کتنی خوبصوردار غذا ایسیں تھی، پھل تھی، اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں تھی، خوش ذائقہ کھانے تھی، تو نے مجھ سے استعمال کیا، جب میں تیرے جسم سے خارج ہوئی تو اتنی بدیودار بن گئی، تیرے ہوڑی دیر کے ساتھ نے مجھے کیا سے کیا بنا کر کھدیا! تو اگر ایمان کا معاملہ نہ ہو تو انسان کی اوقات ہی کیا؟ اتنی اعلیٰ چیزوں کو اتنی گندی چیزوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

**ایمان والا انسان اللہ کا دوست ہے:**

معلوم ہوا کہ انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، اسی سے یہ اشرف الخلوقات ہنا، اسی سے یہ اللہ رب العزت کا پیارا بنا، اسی سے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرما لی۔ چنانچہ جو ایمان والا انسان ہو وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

[اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے]

**انسان صفاتِ الہیہ کا مظہر ہے:**

اچھا دیکھیں انسان میں جو صفات ظاہر میں نظر آتی ہیں، وہی صفات ہم اللہ رب العزت کے ساتھ غیر کے ساتھ مانتے ہیں، مثلاً انسان کے اندر ہمیں سماعت ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے، ول ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، وجود ملتا ہے، ان تمام صفات کو ہم بن دیکھے اندھے میں تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں یہی صفات موجود ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفات ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات کامل ہیں، انسان مخلوق ہے، اللہ رب لعزت خالق ہیں۔ انسان میں یہ صفات محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں۔ انسان بے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اختیار والی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ صفات فائی ہیں، اللہ رب العزت کے اندر یہ صفات باقی رہنے والی ہیں۔ انسان کے اندر یہ صفات عطائی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، جب کہ اللہ کے اندر یہ صفات اس کی ذاتی ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے جس نے انسان کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، ہم انہی صفات کے ساتھ جو انسان میں موجود ہیں اور ناقص حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر کامل صفات کے ساتھ۔

## انسان ایک نو خیز کلی کی مانند ہے:

انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے پودے کی کلی کھلتی ہے۔ تو بچہ اس دنیا میں ایک کلی کی ماند کھلتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ آرزوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ خود رو فصلیں بھی اگ آتی ہیں، ایسی فصلیں جو انسان نہیں چاہتا وہ خود بخود اگ آتی ہیں، چنانچہ ان فصلوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ کسان لوگ جانتے ہیں کہ بعض موسموں میں جب کھیت میں کوئی کھیت کی جائے تو ایک خود رو پودا اگ آتا ہے اس کو اٹ سکتے ہیں، ایک اور پودا جسم اس کو اپنی زبان میں با تھو کھتے ہیں، وہ بھی اگ آتا ہے، انگلش میں ان خود رو پودوں کو weed کہتے ہیں۔ کسان نہیں چاہتا کہ یہ اگیں مگر وہ بخود اگ آتے ہیں، ان کا بیج زمین میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، جب پانی ملا، کھاد ملی تو جہاں فصل اگی وہاں یہ بھی اگ آئے۔ یہ خود رو پودے غیر مطلوب ہوتے ہیں، کسان ان کو نہیں چاہتا، اس لئے کہ وہ کھیت کی ۲۰ فیصد سے ۶۰ فیصد تک کی خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو نہ نکالا جائے تو اصل فصل کمزور ہو جاتی ہے، ہذا ان کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔

## انسان کے نامطلوب اوصاف:

جب یہ بات سمجھ لی تو ایک اور بات سمجھ میں آگئی کہ انسان کے اندر کچھ صفات مطلوب ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں غیر مطلوبہ آ جاتی ہیں۔ جس طرح کھیت کے اندر خود رو پودوں کو کوئی کیمیکل چیز کر ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو ختم کرنے کے لئے دینہ و سایہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو ان رذائل کو خود ختم کرنا

پڑتا ہے۔ اگر ان رذائل کو ختم نہ کیا تو اس کی صفات پھر ان رذائل کے اندر چھپ جاتی ہیں۔

### اقتدار کے ساتھ تکبیر:

مثال کے طور پر: آپ ذرا غور کیجئے کہ جس انسان کو اقتدار ملے تو تکبیر اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے، کرسی ملی اور تکبیر آ گیا۔ تو اس تکبیر کی مثال بھی خود روانگی والے پوڈے کی مانند ہے۔ اسلئے فرعون کو اللہ رب العزت نے اقتدار دیا تھا، ایسا تکبیر اس کے اندر آیا کہ کہنے لگا، آنا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھ۔ اتنا تکبیر کہ اپنی فوج اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے خطاب کیا، تقریر کی اور ان کو کہنے لگا۔ الیس لی ملک مصر کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ و هذه الانهار تجری من تحتی اور دیکھو! یہ نہریں میرے تحت بہر رہی ہیں۔ یہ میرا آپیاشی کا نظام دیکھو! دریا دل کا نظام دیکھو! تو یہ تکبیر انسان میں خود بخود آ جاتا ہے۔

### دولت کے ساتھ بخل:

اسی طرح انسان کو جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دے تو بخل کی فصل خود بخود اُو آتی ہے، ہر انسان جس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس سخاوت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس زیادہ مال آتا ہے اکثر و بیشتر اسکیں بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روز اپنے بینک بلنس کو دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں! کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مالدار کی مثال عثمان غنی بیٹھے ہیں۔ اللہ نے خوب دیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لئے خرچ کیا، یہ مالدار ہوئے۔ کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، اس کا استعمال کرنا ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہوتا، جمع یہ کرتے ہیں پھر مزے ان کی اولادیں اڑاتی ہیں۔

حسب قیامت کے دن یہ دیں گے اور مزے ان کے بعد آنے والے اڑائیں گے تو اس مال کا کیا فائدہ کہ انسان دنیا کا مالدار ہو اور قیامت کے دن کافقیر ہو؟ قارون کو دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا مگر اسکو زکوٰۃ دینی بوجو نظر آئی، چنانچہ اس نے حضرت موسیؑ پر الزم تراشی کا ایک بہانہ بنالیا، بالآخر اللہ نے اس کو اس کے ہل اور خزانوں سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا۔

### علم کے ساتھ حسد:

ای طرح جس شخص میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخر اور حسد کی خودرو فصل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علم بھی عجیب ہے کہ بندے کے اندر آیا تو اسکے اندر فخر اور حسد خود بخود آ جاتا ہے۔ قوم یہود کو دیکھو! ان کے پاس علم تھا مگر اس علم کے ساتھ ان کے اندر حسد بھی پیدا ہو گیا۔ نبی ﷺ سے حسد کن لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے

لولا الحسد في العلماء لكانوا بمنزلة الانبياء

(اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبیاء کے مقام تک بھی جا پہنچتے)

علم انسان کو اتنا اور اٹھادیتا ہے مگر حسد بندے کو گراویتا ہے۔ اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جہاں علم آیا وہاں حسد کی خودرو فصل بھی پیدا ہو گئی۔ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، سینگ نہیں سماتے اور یہی چیز انسان کی تزلیٰ اور اس کی گراوٹ کا سبب ہن جاتی ہے۔

### شهرت کے ساتھ ریا کاری:

ای طرح جس بندے میں شهرت آئی اس میں بناؤٹ اور ریا کاری کی فصل خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا ثُنی وی کے قراء کی شکلیں دیکھا کریں، آپ کو ساری

بات خود بخود سمجھ میں آجائے گی۔ اب چونکہ ریڈ یو کے قاری بن گئے، فی وی کے قاری بن گئے اس لیے بناوت آجائی ہے، سچ دینج کے رہنا، بن سنور کے رہنا ان کا شعار بن جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس سکرین کے مولوی بننے کا کہ سنت ہی چھوٹی ہوتی چلی جائے؟ کہنے کو علامہ اور چہرے پر سنت ہی پوری نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ جہاں شہرت آئی بناوت اور ریا کا ری کی فصل خود بخود پیدا ہو گئی۔

### حسن و جمال کے ساتھ نمائش:

اسی طرح جہاں حسن و جمال آتا ہے وہاں نمائش کی فصل خود بخود اگ آتی ہے۔ اس لئے آپ دیکھیں کہ عورتیں بے پردہ ہو کر کیوں باہر پھرتی ہیں؟ کبھی میںے منے سے نکلیں گی؟ کبھی نہیں، کیسے نکلتی ہیں؟ نکلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ تیار ہوتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ اب ہم اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے گا تو پھر وہ ہمیں پیار کئے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ تو جہاں حسن و جمال آیا اس کے ساتھ بناوت اور نمائش خود بخود آگئی۔ اس لئے بے پردہ عورتوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا آسان طریقہ، ان کو کہو کہ سادہ کپڑے پہنو! سادہ کپڑے پہن کر کبھی باہر نہیں نکل سکتیں۔ یہ رنگ برلنگے کپڑے، بہترین کپڑے جہاں آئے، وہاں بے پردگی آگئی۔

### انسان کی ذمہ داری:

معلوم ہوا کہ جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں غیر مطلوب قسم کی بہت سی فصلیں خود بخود اگ آتی ہیں۔ تو جیسے کسان اپنے کھیت میں خود و فصلوں کو تلف کر دیتا ہے تب اس کی صحیح فصل اچھی ہوتی ہے، انسان کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے ان رذائل کو ختم کر دے تو اس کے اخلاق کی فصل اچھی ہو گی اور اللہ کے ہاں یہ انسان کامیاب ہو گا۔

## انسانی زندگی کے دورخ:

انسان کی زندگی کے دورخ ہوتے ہیں، دوزاویے ہوتے ہیں: ایک ہوتی ہے خود رخی زندگی اور ایک ہوتی ہے خدارخی زندگی۔ خود رخی زندگی کا کیا مطلب؟ خود رخی زندگی کا مطلب یہ کہ میری نشاء پوری ہوگی، میری مرضی پوری ہوگی اور خدارخی زندگی کا کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی نشاء پوری ہو۔ چنانچہ ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی۔ زندگی کے ہمیشہ یہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں Self oriented life (اپنی ذات پر مبنی زندگی) اور دوسرا کو کہتے ہیں God oriented life (خدا کی رضا پر مبنی زندگی) یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں۔ اب دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں۔

مثلا جو من چاہی زندگی ہو، اس میں خود غرضی آتی ہے، خواہش پرستی آتی ہے، مفاد پرستی، زن پرستی، زر پرستی، نفس پرستی، شہوت پرستی یہ تمام من چاہی زندگی کے نتائج ہوتے ہیں اور جو رب چاہی زندگی ہوتی ہے، اس میں اصول پرستی، حقیقت پرستی اور خدا پرستی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔

## دنیا میں بالآخر کھونا ہی ہے:

اب دیکھئے! آج دنیا کے اندر کچھوے کی زندگی ڈیڑھ سو سال، مگر مجھ کی زندگی دو سو سال، درختوں کی زندگی ایک ہزار سال، (ایسے درخت دنیا میں موجود ہیں) پہاڑوں کی زندگی لاکھوں سال جب کہ انسان کی زندگی صرف ۶۰ سال اور وہ بھی آرزوں بھری زندگی، حسرتوں بھری زندگی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی آرزوں اور حسرتوں سے جان چھڑا کر اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے۔ کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا

توجه فرمائیے کہ ”کتنا عجیب ہے وہ پاٹا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔“ زندگی میں انسان اپنی آرزوئیں پابھی لے تو بھی بالآخر اس کا انجام کھونا ہے، جو بھی زندگی میں خواہش پوری کر لے، اسکا انجام بالآخر ان چیزوں کو کھو دینا ہے۔ تو کتنا عجیب ہے وہ پاٹا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں آرزوئیں پوری کرنے کی بجائے اپنے مولیٰ کی مشاراء کو پورا کرے تاکہ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیں۔

### جب تک انسان مٹنے نہیں کامل نہیں ہو سکتا:

ایک فکتے کی بات ذرا سمجھئے، ہر شیع کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے اگر اس شیع کو سازگار ماحول مل جائے، اگر سازگار ماحول نہ ملے تو شیع درخت نہیں بن سکتا۔ اسی لئے ہر شیع کے اندر درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، مگر ہر شیع درخت نہیں بننا کرتا، درخت وہی بنتا ہے جس کو سازگار ماحول مل جائے۔ اور جس کو کفر والی زمین مل جائے تو وہ شیع ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کو غلط ماحول مل جائے اس کے اندر انسان کامل کائن شیع موجود ہوتا ہے مگر وہ شیع تلف ہو جاتا ہے۔ انسان کامل وہی بنتا ہے جس کو اچھا ماحول مل جائے۔ دیکھئے جب تک شیع مٹنے نہیں تب تک وہ درخت نہیں بنتا اسی طرح جب تک انسان مٹنے نہیں تب تک وہ انسان کامل نہیں بنتا۔

آج دنیا جانتی ہے کہ ایک ذرہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اسکو ایتم کہتے ہیں۔

جب وہ ایتم نہ تاہے تو مادی قوت کا اظہار ہوتا ہے، اتنی قوت کہ انسان اس کی طاقت سے ڈرتا ہے۔ جب ایتم نہ تاہے تو جو اس کی طاقت ہوتی ہے وہ شہروں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ یاد رکھئے! جب ذرے کا نیوکلیس نہ تاہے تو مادی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جب انسان کا شاکل نہ تاہے تو اس سے روحانی طاقت باہر آ جاتی ہے۔ جیسے ایتم کا نیوکلیس ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا بھی ایک شاکل ہوتا ہے،

اس شاکلہ کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس انہ کو، اس میں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ جس نے اس شاکلہ کو توڑ لیا اس میں کو توڑ لیا اس بندے کی پھر روحانی طاقت ظاہر ہو گئی۔ پھر انسان وہ کام کر دکھاتا ہے جو جن بھی نہیں کرتا۔

### انسان کی روحانی قوت جنوں سے بڑھ کر:

دیکھئے! حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں جنوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت کو میرے پاس لے آئے؟ جنوں نے جواب دیا کہ ہم اس کو اتنی دیر میں لا سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں مجلس ختم ہو۔ قرآن گواہی دے رہا ہے،

﴿قَالَ عِفْرِيْثٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾

[میں اس کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں مگر جتنی دیر میں آپ مجلس بر خاست کر کے کھڑے ہوں]

آپ نے کہا بڑی دیر ہے اس سے بھی جلدی چاہئے۔ اس وقت ایک عالم دہاں دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا،

﴿قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْقَدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ ﴾

[کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں آپ کے پاس اس تخت کو لاد دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس پلک کو جھپکیں]

﴿فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ بِهِ﴾

تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی میں ثوتی ہے، انا ثوتی ہے، اس کا شاکلہ ثوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی روحانی طاقت دیتے ہیں، وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے جو کام پھر جنوں کے لئے بھی کرنے ناممکن ہوتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کے لئے انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی میں کو توڑے۔

جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا  
ہیں تیری خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے  
کھلتے نہیں اس قلزمِ خاموش کے اسرار  
جب تک تو اسے ضربِ کلیسی سے نہ چیرے

### انسان کی بڑی غلطی:

آج کے انسان نے اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی، کیا غلطی ہوئی؟ اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا اور خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا۔ اپنے کو خدا جیسا کیسے سمجھ بیٹھا؟ ایسے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر فٹاۓ پوری ہو، اب ہر مرضی تو اللہ تعالیٰ کی ہی پوری ہوتی ہے۔ جیسے بعض اپنے گھر میں یہ کہتے ہیں کہ او جی! یہاں وہ ہو گا جو میں چاہوں گا، میری مرضی کے مطابق تمہیں رہنا پڑے گا۔ دیکھا! اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھ کہ ہر حال میں میری مرضی پوری ہو، دیکھ لینا میری تو نو گے تو تب تمہیں کامیابی ہوگی، یہ ہے اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی۔ اور اللہ کو سمجھنے میں کیسے غلطی کی؟ اللہ کو اپنے پر قیاس کر بیٹھا، یہ سمجھ بیٹھا کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں جو بھی عمل کروں، اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ میری پشت پناہی کرے۔

اس لئے آج کا مسلمان کہتا ہے او جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بھائی اللہ کی مدد انہوں کی سانس کے ساتھ اور جسم کے ساتھ وابستہ نہیں ہاں البتہ ان کے اعمال ان کے ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب وہ ایمان والے اعمال ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں: جی چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اب اللہ کے ذمہ ہے کہ ہماری مدد کرے۔ وہ کوئی رشتہ دار تھوڑا ہے؟ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کی جائز بھی مدد کرتے ہیں، ناجائز بھی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: جو مرضی ہو، ہم نے تو اپنے رشتہ دار کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا

ساتھ اعمال کے ساتھ ہے، وہ اعمال دنیا میں جس بندے کے بھی ہوں، رنگ کا گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، بھجی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس کے اندر وہ اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کر لی، اپنے پروردگار کو سمجھنے میں بھی غلطی کر لی۔

اب دیکھیں! قوم یہود نے کیا کہا تھا؟

﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَجْبَانُهُ﴾

[ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں]

لہذا ہم جو مرضی کریں۔

﴿لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَةً﴾

[ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن]

تو دلیل قرآن سے مل گئی کہ اپنے کو بھی سمجھنے میں غلطی کی، اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی۔

## دو زخی اعمال سے جنت کی تلاش:

عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ نے بنائی ہے اور آج دنیا میں بھی ہر انسان اپنی جنت بنانے میں مصروف ہے۔ ہر انسان کس لئے محنت کر رہا ہے؟ میری بیوی ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرا بس ایسا ہو، ہر چیز اپنی پسند کی چاہتا ہے۔ یعنی ایک جنت تو خدا نے بنائی، ایک جنت اب انسان دنیا میں بناتا پھرتا ہے۔ اسی لئے رشو قمی لیتا ہے، اسی لئے حرام کھاتا ہے۔ کیوں؟ من پسند کی ہر چیز پالیں، اسی کا نام تو جنت ہے۔ مگر عجیب بات کہ ہر انسان جنت کو تلاش کرتا پھرتا ہے مگر دو زخی اعمال کے ذریعے سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ ہم دو زخی اعمال کے ذریعے سے جنت کو پالیں۔ کچھ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں اور کچھ

اعمالِ دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ آج لوٹ مار کے ذریعے من پسند کی زندگی گزارنے والا، حقیقت میں دوزخی اعمال کے ذریعے سے جنت کو ڈھونڈنے والوں میں شامل ہے۔

اسی لئے انسان کو چاہئے کہ اپنی اوقات کو یاد رکھے کہ بالآخر میں نے دنیا سے چلے جاتا ہے، اگر یہاں میں نے من پسند کی چیزیں اکٹھی بھی کر لیں، حرام کامال جمع بھی کر لیا، خوبصورت بیوی بھی لے لی، مگر بھی لے لیا، ہر چیز لے بھی لی، ہے تو یہ پھر بھی چار دن کی چاندنی آگے پھر اندر ہیری رات ہی تو آنی ہے۔

**موت کو یاد رکھو:**

اسی لئے نبی ﷺ نے حکم فرمایا:

**اذکرو اهادِ الذاتِ الموت**

[لذتوں کو توڑنے والی اپنی موت کو یاد کیا کرو]

وہ تمہیں اپنی حقیقت یاد دلانے گی۔ اسی لئے ہمارے اکابر پہلے وقت میں قبرستان میں جایا کرتے تھے کہ قبرستان میں جا کر انسان کو عبرت ملتی ہے اور اس عاجز کا خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں قبرستان میں جانے کی بجائے ہسپتال میں جا کر دیکھ لیا کریں، آج کا ہسپتال عبرت کا زیادہ بڑا نمونہ ہے۔ پہلے زمانے میں اتنے بڑے ہسپتال تو ہوتے نہیں تھے، آج ذرا جا کر دیکھیں! انسان کی اوقات کیا ہے؟ سمجھ لگ جاتی ہے۔ کبھی دل والے سیکشن میں جا کر دیکھیں، کبھی پیشاب والے سیکشن میں جا کر دیکھیں، پہنچ چل جائے گا کہ انسان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔

مگر انسان کے دل کی غفلت ایسی کہ ہسپتالوں میں جا کر بھی کئی مرتبہ دور نہیں ہوتی۔ خود مریضوں کو روزانہ ڈیل کرنے والے لوگ، مریضوں کو ایسے برے

امراض میں بنتلا دیکھنے والے ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں، ان کے اپنے دل نرم نہیں ہوتے، انسان کے دل کی غفلت کا یہ حال ہے۔

## اعمال کی کنجیاں

انسان اگر یہ چاہے کہ میں اپنے رب کو پالوں، رب کی رضا کو پالوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو خوش کرنے والے اعمال کو کرنا شروع کر دے، یقیناً اس کو اپنے رب کی رضال جائے گی۔ اسی لئے ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے، جس سے اس کے تالے کھلتے ہیں۔ حدیث پاک میں مختلف اعمال کی کنجیاں بتاوی گئیں۔

### جنت کی کنجی:

چنانچہ نبی مسیح علیہم نے بتایا کہ جنت کی کنجی "کلمہ طیبہ" ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہنا ہے۔

### نماز کی کنجی:

اسی طرح فرمادیا کہ نماز کی کنجی "طہارت" ہے، جو انسان ہمیشہ باوضور ہے، اس کے لئے نماز پڑھنی بڑی آسان ہے۔ جو عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم سے نماز میں سکتی ہو جاتی ہے، اگر کبھی اپنے آپ کو باوضور کھنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو بندہ چاہے کہ نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وضواہتمام کے ساتھ کر لے، نماز کی حقیقت بھی نصیب ہو جائے گی۔

آپ نوٹ کر لیں کہ غفلت کی نماز پڑھنے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوں گے جو وضو بھی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ ذرا وضو کو حضورِ دل کے ساتھ کرنے کی عادت

ڈالیں اللہ تعالیٰ نماز کے اسرار بھی عطا فرمادیں گے۔

### نیکی کی کنجی سچ بولنا:

اسی طرح نیکی کی کنجی "سچ بولنا" ہے۔ جو انسان چاہے کہ میں نیک بن جاؤں وہ سچ بولنے کی عادت ڈالنے کی کنجی ہے۔ اصل میں جھوٹ ہی ہے جو تمام برائیوں کی بنیاد ہے اور آج کے دور میں شیطان نے اس کا ایک خوبصورت نام بہانہ رکھ دیا تاکہ بندے کو برانہ لگے۔ او جی! میں نے بس بہانہ بنالیا اور یہ بہانہ جھوٹ ہی ہے، سید حاسید ہا کہو کہ میں نے جھوٹ بولا۔ یہوی سمجھتی ہے کہ میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنالیا، خاوند سمجھتا ہے میں نے یہوی کے سامنے بہانہ بنالیا۔ کیا مطلب؟ آپ سید ہے الفاظ کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جو انسان چاہے کہ میں نیک بنوں، اسکے نیک بننے کی کنجی ہے سچ بولنا، سچ بولنے کی عادت ڈال لے۔ اس لئے ہمارے مشائخ نے کہا کہ بچے کو جو چند موٹی موٹی چیزیں سکھائی جائیں ان میں سے ایک چیز ہمیشہ سچ بولنا۔ اس میں بچے کے ساتھ کوئی کمپرد مانز نہیں، بچے کی ہر غلطی برداشت ہو سکتی ہے، اس کا جھوٹ برداشت نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ایسا بنالیں خود بخوبی بچے میں نیکی آجائے گی۔ اس لیے کہ جھوٹ سے ہی وہ اپنے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، جب سچ بولے گا تو گناہ پر پردہ ہی نہیں ڈال سکتا۔ آج تو انسان ایک گناہ کرتا ہے، اسکو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دس جھوٹ اور یوں بولنے پڑتے ہیں اور پھر دس جھوٹوں کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اور یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اپنی زندگی میں ایک روگ پاتتا ہے، اسکے بدلتے اس کو ہزاروں جگہ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔

**علم کی کنجی "حسن سوال":**

علم کی کنجی حسن سوال۔ جس طالب علم کے اندر حسن سوال کی صفت پیدا ہوئی آپ یوں سمجھ لوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باب عطا فرمادیے۔

**اللہ کی مدد کی کنجی "صبر"**

اللہ رب العزت کی مدد کی کنجی انسان کا صبر ہے۔ آج ہم ہر چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، بھی جب بدلہ ہم لیں گے تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص صدیق اکبرؑ سے سخت بات کر رہا تھا اور صدیق اکبرؑ اس کو برداشت کر رہے تھے، نبی ﷺ بھی سن رہے تھے، حتیٰ کہ جب اس نے بہت ہی بے جا باتیں کی تو صدیق اکبرؑ نے جواب دیا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے جانے لگے۔ فرمایا کہ ابو بکر! جب تک تم خاموش تھے، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دیا، اللہ کا وہ فرشتہ چلا گیا اور اب میں بھی اس محفل سے اب اٹھ کر جارہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

[اللہ تعالیٰ صبر والوں کیسا تھا ہے]

ایک سنتے کی بات ہے کہ آپ کا مخالف دو طرح کا بندہ ہو سکتا ہے یا نیک ہو گا یا بد ہو گا۔ اگر تو بد ہے تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اس سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس نے کہہ رکھا ہے:

﴿إِنَّمَا يُنْهَا الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

(بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں گے)

اگر تو آپ کا دشمن بد ہے، برا ہے تو آپ کو بدله لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی بدله لینے کے لیے کافی ہے اور اگر آپ کا دشمن نیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود برے ہیں جو نیکوں کے ساتھ آپ نے دشمنی کر لی ہے تو اپنے آپ کو سنوار لیجئے! نیکوں کے ساتھ دشمنی نہ کیجئے۔

### نعمتِ خدا کی کنجی (مشکر)

نعمتِ خدا کی جو کنجی ہے وہ مشکر ادا کرنا ہے۔ جوانان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیں گے۔ یہ مشکر زبان سے بھی کرے اور یہ مشکر اپنے عمل سے بھی کرے۔ آج اللہ تعالیٰ کا زبان سے مشکر ادا کرنا بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیٹے کی تعریف کرنا آسان، شہر کی تعریف کرنا آسان، مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام، یہ زبان سے ادنیں ہوتی۔ کوئی پوچھے کہ سناً؟ اکار و بار کیسا ہے؟ ”بس جی گزارہ ہے“ حالانکہ کار و بار ایسا کہ یہ اپنے ساتھ دس گھروں کا اور بھی خرچ چلا سکتا ہے، اتنا رب نے دیا، اس کی ضرورتوں سے بڑھ کر دیا، اس کی اوقات سے بڑھ کر پورا دگار نے اسے دیا، مگر جواب کیا ملے گا ”بس جی گزارہ ہے“۔ اس سے زیادہ ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں آگے سے زبان کھلتی؟ اور بندہ بیوں کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر دیا؟ میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، اپنے مولیٰ کا مشکر ادا کرہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے جلدی نہیں نکلتی، اللہ کی خوب تعریفیں کرنی چاہتیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کریں کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آئے گا کہ بندے نے ایسی تعریف کی۔

## ولایت کی کنجی "ذکر":

ولایت کی کنجی "ذکر"۔ جب بندہ چاہے کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے اس کو چاہئے کہ وہ پابندی کے ساتھ ذکر کرے، ذکر کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ آسانی سے عطا فرمادیتے ہیں۔ آج ہم سے ذکر ہی ہم سے نہیں ہوتا۔ پوچھیں نا کہ کیا معمولات کرتے ہو؟ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، تو پھر ولایت کے انوار کیسے ملیں گے؟ بھی اہم کنجی کے بغیر تالاکھوں اچاہتے ہیں، کیا بات ہے!! کیاشان ہے!! پانچ منٹ مراقبہ نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے غصہ نہیں نکلتا، ہماری نگاہ پاک نہیں ہوتی، بھی ایہ تمام نعمتیں اس ذکر کی کثرت سے ملنی تھیں یہ کام ہم کرتے نہیں، ہمیں یہ صفات کیسے مل جائیں؟ اولیاء کی صفات تب ملیں گی جب ہم ذکر کو دوام کیسا تھک کریں گے۔ ہمارے مشخ نے تو یہاں تک فرمایا "جودم غافل سودم کافر" جو لمحہ بھی ذکر کے بغیر گزرا تم یوں سمجھو کر وہ لمحہ گویا کفر کی حالت میں گزرا۔

## فلاح کی کنجی "تقویٰ":

فلاح کی کنجی "تقویٰ" ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں مجھے کامیابی مل جائے، فلاح مل جائے۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ ذرا سمجھیں! فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، ایسی خوشی ملے انسان کو کہ جس کے بعد غم نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور یہ انسان کو تقویٰ کے ساتھ ملتی ہے۔ اور اسی تقویٰ کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی۔

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (مریم: ۶۳)

[یہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں سے وارث بنایا ہے جو متqi میں دیکھا! یہاں نورث کا لفظ استعمال کیا۔ یہ جنت ہے، اسکا وارث ہم بنا میں

گے۔ بھی! وارث تو ہوتا ہے اپنے باپ دادا کی جسیداد کا، تو معلوم ہوا جنت ہمارے باپ حضرت آدم ﷺ کی جسیداد ہے۔ اگر ہم ان کے صحیح معنوں میں وارث بنیں گے تو بارہ خرہ میں یہ وراثت مل کر رہے گی مُنْ كَانَ تَقِيًّا جو متqi ہو گا اسے یہ وراثت ملے گی۔

### رزق کی کنجی "اخلاص"

اور رزق کی کنجی "اخلاص" ہے، اخلاص اور صدقہ جی۔ چونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے "صلہ رحمی رزق کی کنجی ہے"، جس بندے کے اندر صلہ رحمی ہو وہ رشتے ناتوں کو جوزے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھادیتے ہیں۔ آج ہم ان کو توزتے پھرتے ہیں۔

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَذْ يُؤْضِلُ﴾

[اور توزتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا]

دیکھ! تو اخلاص انسان کے لیے رزق کے دروازوں کے لکھنے کا سبب ہن جاتا ہے۔ اسی یہ تو میں اب کہا کرتا ہوں کہ جب خلوص کی کمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فلوس کی کمی نہیں آنے دیتے۔ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔

### (خیر و برکت والے اعمال)

#### وضو میں عمر کی برکت:

ایک حدیث پاک میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: (علی ﷺ اس کے راوی ہیں) فرمایا: کامل وضو کرو عمر بڑھادی جائے گی، جو انسان چاہے کہ میری عمر لمبی ہو، برکت والی ہو، اس کو چاہیے کہ کامل وضو کرے، باوضور ہنے کی کوشش کرے، عمر میں برکت

عطاؤ کر دی جائے گی۔

### سلام میں گھر کی برکت:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو اس سے گھر میں خیر بڑھے گی۔“ آج کتنے بھائی ہیں جو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اہل خانہ کو سلام کرتے ہیں؟ آج تو کمرے میں باپ بیٹھا ہو تو پہنچا آکر سلام نہیں کرتا، یہ تو پوچھ لے گا کہ ابوآپ کیسے ہیں؟ سلام نہیں کرے گا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اتنا سلام کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے اور اٹھ کر کسی کام سے دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے اور واپس آتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے۔

اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا: ”جاننے والے اور انجان سب کو سلام کیا کرو“ اور فرمایا: ”سلام کو عام کرو نیکیوں کی کثرت عطا کر دی جائے گی۔“ یہ *اللَّهُمَّ إِنَّمَا السَّلَامُ يَنْتَحِمُ بِالنَّاسِ* والی سنت آج تک تھی چلی جا رہی ہے۔

### اہل اللہ سے نسبت:

اسی حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم چاشت کی نماز پڑھو! صلوٰۃ الفتحی پڑھو! تمہاری اہل اللہ کیسا تھو نسبت بڑھ جائے گی، نیک بندوں میں شمار کر لیا جائے گا۔

### نبی علیہ السلام کا ساتھ:

پانچویں بات نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ”چھوٹوں پر رحم کرو، اور بڑوں کی عزت کرو! تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب کر دیا جائے گا“۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑوں کا اکرام کریں اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں اس کا بدل کیا ملے گا؟.. یہ کنز الاعمال کی حدیث

۔

## پانچ بندوں کی ذمہ داری

ایک اور حدیث میں معاذ بن جبل ﷺ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ بندے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسے بچے کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، پانچ بندے ایسے ہیں کہ ان کا ذمہ دار ان کا پروردگار بن جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جس میں اللہ ہمارا ذمہ دار بن جائے۔

### (۱) اللہ کے راستے میں نکلنے والا:

سینے ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو، جو اللہ کے راستے میں اقامت دین کے لیے لکلے، مجاہد فی سبیل اللہ، جو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے وہ بھی فی سبیل اللہ، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی فی سبیل اللہ، یہ تمام کام کرنے والے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئے، اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ کا قرب پانے کی نیت سے، آپ بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ یہ کوئی شیطان کا راستہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے کو کسی ایک عمل کیسا تھا مخصوص نہیں کر دینا چاہئے۔ احادیث میں جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔

### (۲) مریض کی عیادت کرنے والا:

دوسرے مریض کی عیادت کرنے والا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور حالت تو یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے مریضوں کو بھی

نہیں پوچھتے، یہوی بیکار ہے، خاوند نہیں پوچھتا۔ بیٹا اور بیٹی یہ رانکوڑا کٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہیں ہوتی، مگر میں موجود لوگوں کا حال نہیں پوچھتے۔ یہوی کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی بے سہارا ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر بے سہاروں کا سہارا بنانا کرتے تھے۔ یاد رکھنا! توجہ کیجئے گا! دنیا میں کسی بے سہارا کا سہارا بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ! تو اس دن میرا سہارا بن جانا جب میرا کوئی سہارا نہیں ہو گا۔

### (۳) صبح و شام مسجد میں گزارنے والا:

اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص صبح شام مسجد میں گزارے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے“، ایک وقت تھا، جب صبح کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور پھر اشراق تک بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے اکابر تجد بین النومین (دونیندوں کے درمیان) پڑھا کرتے تھے اور آج کل کے صوفی حضرات فخر کی نماز بین النومین پڑھتے ہیں۔ مشکل سے انہوں کو فجر پڑھی اور سلام پھیل کر پھر بستر پر بیٹ گئے۔ حالانکہ یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ تو برکت وال وقت ہوتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں ”نور پیر داویدہ“۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت میں پیر کے بتائے ہوئے اور اد و وظائف کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نور برساتے ہیں، لہذا یہ نور پیر داویدہ ہوتا تھا، اس وقت میں استاذ یادہ تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کیا کرتے تھے کہ اس کا نام ہی ”نور پیر داویدہ“ پڑ گیا۔

### (۴) امام کا معاون:

چوتھا فرمایا: امام کا مدودگار، یعنی جو عالم کسی مسجد کا امام ہو یا پیشک اپنے وقت کا امام ہو، اس کی اقامت دین کے کام میں مدد کرنے والا ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء کا قدر روان بنادے۔

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علماء سے ایسی محبت ہے کہ اگر میں لین

ہوا ہوں اور کوئی عالم میرے سینے پر پاؤں رکھ کے گزر جائے، مجھے اس سے بھی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ اور آج تو کچھ لوگوں کو علماء سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، یعنی محاورے میں یہ بات کی جانی ہے، ورنہ میں تو کبھوں گاشیطان کی وجہ سے بیر ہوتا ہے، نفس کی وجہ سے بیر ہوتا ہے، نہ ان کو علماء اچھے لگتے ہیں اور جہاں علماء بنتے ہیں نہ وہ جگہیں اچھی لگتی ہیں۔

#### (۵) کسی کا برانہ چاہئے نہ والا:

اور پانچواں حدیث پاک میں نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص گھر بیٹھے کسی کا برانہ چاہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آج ہم گھر بیٹھ کے لوگوں کی غیبت میں کرتے ہیں، جو غیبت کرتا ہے وہ اصل میں دوسرے کا برانہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ غیبت سے بچیں گے وہ گویا اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔

غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ: یا تو اس محفل سے انہوں جائیں یا اس بندے کی اچھائی بیان کر دیں، مثال کے طور پر: ایک آدمی نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ ” فلاں تو بڑا ہی بے وقوف ہے“ سخنے والے نے کہا کہ مجھ سے تو کم ہی ہوگا، بات ہی ختم۔ تو ہمیں بھی آگے سے ایسی ہی بات کرنی چاہیے، مثلاً ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس میں اتنی برا بیاں ہیں تو اللہ نے اس میں اچھائیاں بھی رکھی ہوں گی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر مزدوریاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم تو آگے سے زبان بھی نہیں حول پاتے، تو اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے تو انہ کروں سے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بن لیں۔ تو جو انسان گھر بیٹھے کسی کا برانہ چاہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔

## پانچ آنکھوں پر جہنم حرام

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانچ آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرمادیتے

ہیں:

### اللہ کی راہ میں جان گئے والی آنکھ:

سب سے پہلی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگی ہو۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جائے، مجاہد ہو، داعی ہو، طالب علم ہو، جو اللہ کے راستے میں نکل کر جائے تو اللہ کے راستے میں جان گئے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں رات کو جان گئے ہیں،

اس شب کی تکھیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے  
تیری راہ تختے تختے مجھے صبح ہو گئی ہے  
تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ساری رات گزار دیا کرتے ہیں۔

### اللہ کی راہ میں ضائع ہونے والی آنکھ:

اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضائع ہو جائے تو ایسی آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنے والے۔

ایک تیری عی دوستی کے لیے  
ساری دنیا سے دشمنی کر لی  
ساری دنیا ان کی دشمن بن جایا کرتی ہے، ایسے بندے کی آنکھ ضائع  
ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔

### خوف خدا سے رونے والی آنکھ:

اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رونے، اللہ کی محبت میں رونے، اسکی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، یہ آنسو بھی بڑی نعمت ہیں۔ کسی نے کیا عجیب شعر کہا:

— اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے  
آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے

اللہ اکبر!

### غیر محرم سے رکنے والی آنکھ:

اور چوتھی بات نبی ﷺ نے فرمائی: ”جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔ آج کی محفل میں ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ ہماری آنکھ کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں۔

### اللہ والوں کو محبت سے دیکھنے والی آنکھ:

اور پانچویں آنکھ جو اللہ والوں کے چہرے پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑے، اللہ تعالیٰ اسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔

### (پانچ کاموں میں جلدی کرو!

ہمارے اکابر نے فرمایا کہ عام طور پر تو جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، مگر پانچ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کو جلدی کرنا زیادہ اچھا ہے۔

(۱)۔ نماز جلدی پڑھنا۔ اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ نماز میں سستی ہو جاتی

ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان ان کے دلوں میں یہ ذات ہے کہ بس یہ کام کر کے پڑھ لیتی ہوں۔ یہ اصل میں بری عادت ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو کوشش کریں کہ نماز پہلے پڑھیں، باقی کام بعد میں کریں۔

(۲) توبہ میں جلدی کرنا، توبہ میں درنہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھی محفل دیکھیں، نیک لوگ دیکھیں، ایسا وقت دیکھیں، جو اللہ کی رحمتوں کا ہو، توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔

(۳) مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا، ہمارے اکابر نے فرمایا۔ اگر کسی کے ہاں مہمان آئے اور وہ پانی کا گلاس ہی بھر کر پیش کر دے گا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دے گا، اتنا تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے۔

(۴) اور فرمایا کہ کتواری بھی کی شادی کرنا، اس میں بھی جلدی کرے اور آج اس عمل میں سستی کی وجہ سے ماجول اور معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جوڑ کا خاوند مل جائے تو تم بھی کی شادی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو۔

(۵) اور پانچواں فرمایا کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کی جائے۔

### پرندوں کا پنجھرہ یا جانوروں کا اصطبل.....

انسان جب یہ اعمال اپناتا ہے تو پھر اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر ان اعمال سے انسان محروم ہو جائے تو پھر انسان بگڑا ہو انسان ہوتا ہے۔ ایسے حسن بصریؓ فرماتے تھے:

**هذه الاجساد حبس لطیور او اصطبل الدواب**

(یہ ہمارے جو جسم ہیں یا تو یہ پرندوں کے پنجھرے ہیں یا پھر یہ جانوروں کے

اصطبل ہیں ]

ان کے اندر رہنے والا اگر نیک ہے تو وہ جنتی پرندہ ہے، یہ اس کے لیے پنجھرہ ہے، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا تو ارجمندی رہنک تو وہ اڑ کر اس پنجھرے سے نکل جائے گا اور جنت کا پرندہ بنادیا جائے گا اور اگر یہ بُرا ہوا ہے تو یہ بُرے ہوئے انسان کا جسم اس کے لئے جانوروں کا اصطبل ہے۔

تو ہمیں چاہئے! کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی مدد مانگیں اور ان اعمال کو اپنا کیمیں تاکہ نیک بن کر زندگی گزارنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔

### تصوف و سلوک کی محنت کا مقصد:

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے۔ جس محنت سے بندے کو یہ غم لگ جائے، یہ در دنصیب ہو جائے، اس محنت کو آج کے زمانے میں تصوف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

ہمارے مشائخ نے تصوف کے بارے میں مختلف الفاظ میں تعریفیں بیان کیں۔ جو یاد ہیں تو ان کو بیان کر دیتا ہوں، اب اتنا وقت تو نہیں کہ ان تمام کی تفصیل بتا سیں، اپنے اپنے علاقوں میں علماء سے تفصیل پوچھ لینا چاکر۔ چونکہ تصوف کی تعریف کرنے کے حقدار توانی ہی ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیونکہ صاحبُ الْبَيْتِ اُذْرَى  
بِمَا فِيهَا گھروالا جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے؟

### تصوف، اکابر کے اقوال کی روشنی میں:

تو ہمارے اکابر نے تصوف کی جو تعلیمات دیں وہ ذرا سختے جائیے اور پھر جو علماء ہیں وہ تو ان کو سمجھو ہی لیں گے۔ طلباء بھی ان کو سمجھ لیں، آسان عربی ہے اور جو ہمارے جیسے عوام الناس ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے علماء سے ان کو سمجھ لیں۔

☆ چنانچہ امام ابو حیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں فرمایا:  
التصوف احوال القاهرة و اخلاق الطاهرة

☆ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:  
الخروج عن کل خلق طری والدخول فی کل خلق ثنی  
ہر بے خلق سے نکل جانا اور ہر ایجھے خلق کو اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے۔  
بعض نے فرمایا:

تفرد العبد بالصمد الفرد  
کہ بندے کا ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لینا یعنی توکل  
اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے۔  
☆ بعض نے فرمایا:

طلیق الدنیا والاعراض عن الهم  
یعنی اللہ کی رضا کے لئے دنیا کو طلاق دے دینا، خواہشات دنیا کو طلاق دے  
دینا۔

☆ بعض مشائخ نے تصوف کے بارے میں کہا:  
السکون فی المصائب الی الحبیب  
کہ اپنے محبوب کی طرف سے جو حالات آجائیں ان میں پر سکون رہنا، اس  
کا نام تصوف ہے:  
☆ بعض نے کہا

وقف الهم علی المولی النعم یا . . فی جلال القرب یا موافقة  
الحق و مفارقة الخلق  
حق کے ساتھ موافقت کرنا اور خلق کے ساتھ مفارقت کرنا، اس کو تصوف کہتے

میں۔

☆ بعض حضرات نے کہا:

عن مراتب الدنیا والعلو الى المکتبۃ العلیا

☆ بعض حضرات نے کہا:

الاعتصام بالحقائق فی اختلاف الطرائق

☆ بعض مشائخ نے کہا:

الاستقامة على المنحدر مستقيم

☆ بعض حضرات نے کہا:

حمل النفس على الشدائد

☆ بعض حضرات نے کہا:

الاسلام الى مقلب القلوب

☆ بعض حضرات نے کہا:

رغبة الى .. فی درک المطلوب

☆ اور امام ربانی مجدد الف ثانی ﷺ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندے کی  
کیفیت ایسی ہو جائے

حتیٰ اذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وظنوا ان لا ملجا من

الله الا اليه

اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کے سو امیراً کوئی طبا اور ماوی نہیں،

اس کیفیت کو تصوف کہتے ہیں۔

اب بتائیے! یہ تصوف کا اختیار کرنا عین شریعت ہے یا نہیں۔ تو بعض ایسے بھی  
لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی نہیں مانتے، وہ اپنے آپ میں کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں کسی کی

ہنتے۔ ان کو جو بھی نام دیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کسی کی ان کر چلتے، ہم اپنی مرضی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں: کہ یہ شریعت میں نہیں چیز ہے۔ نہیں چیز نہیں ہے، ”شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا“، اسی کا نام تصوف ہے، اور اسی سے انسان کو ولیت کا نور نصیب ہوتا ہے۔

## نوروالیت کی نشانیاں

ولیت کے نور کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ نشانیاں تو وہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، مثلاً نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا:

الَّذِينَ إِذَا رُوْا ذَكَرَ اللَّهُ (وہ بندے کے جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے)  
يَرَوْا أَوْلِيَاءَ كَيْ نشانی ہوتی ہے۔

اور عمر و بن جموج رض کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

میرے بندے اور دوست وہ ہیں جو مجھے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں اور ان کو میرے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔

تاہم کچھ ان کی ظاہری نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، وہ ظاہری نشانیاں ذرا سن لیجیے۔

### پہلی نشانی:

تمام دن ذکر کیا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان

دونوں دورہ حدیث کے حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، یہ بھی ایک خادم اور مرید ہونے کے ناطے ساتھ تھے، تو حضرت راستے میں ایک جگہ رکے جیب سے کاغذ نکالا اس کے اوپر کچھ لکھا اور جیب میں ڈال لیا اور پھر فرمایا کہ محمد شفیع آپ سمجھے کہ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے! تو فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک علمی نکتہ میرے دل پر وارد ہوا تھا، میں نے کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تاکہ جب میں تصنیف کا کام کرنے بیٹھوں گا اس وقت اس پر غور خوض کروں گا تو کاغذ پر لکھ کر میں نے اس کو محفوظ کر لیا اور میں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لئے فارغ کر لیا۔ ہمارے اکابر اتنا اللہ کے لئے یاد کے لئے اپنے دلوں کو فارغ کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت خواجہ مجدد بحقیقتہ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لطفیے سنانے شروع کر دیے۔ کم و بیش ایک گھنٹہ خوب سب کو ہنسایا اور ہنسانے کے بعد اچانک فرمایا: اچھا بھی! بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو ایک گھنٹہ ہنسنے کے بعد بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا؟ سب حیران رہ گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں سے آگئی؟ پھر فرمایا کہ میری یہ حالت تھی کہ میں اگرچہ ایک گھنٹہ تمہیں ہنسنے والی باتیں سناتا رہا مگر میرا دل ایک لمحہ بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا، ایسا دوام ذکر ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔

### دوسری نشانی:

اولیاء کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ فتنوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ لہذا کسی بندے کے ساتھ راجحت نہیں ہیں۔

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا مَلَامًا﴾

جالل اگران سے مخاطب ہوں تو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، خواہ کوئی الجھانے کی کوشش بھی کرے۔

## تیسراً نشانی:

اللہ تعالیٰ ان کو قناعت عطا فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں مگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھو تو قناعت والی زندگی ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رض کو سیدنا عمر رض نے دیکھا کہ وقت کے سپہ سالار تھے اور اپنی رولی پانی میں بھگو کر نوش فرمائے ہیں۔

## چوتھی نشانی:

علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیں اعمل بغیر علم کے سقیم ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے۔ عقیم کہتے ہیں با نجھ کو۔ عمل بغیر علم کے سقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے اور علم پر عمل صراط مستقیم کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

## پانچویں نشانی:

یہ لوگ مخلوق کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔

سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے

ایسے رحیم و کریم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی رحمت اور معرفت عطا فرماتے ہیں، وہ ساری مخلوق پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر ادا چنانچہ اللہ کے بندوں پر بھی شفیق اور مہربان اور اللہ کی باقی مخلوق پر بھی شفیق اور مہربان۔

خواجہ باقی باللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم سر قدم کے رہنے والے تھے، ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی تو بہت سخت سردی تھی، بھٹکتے ہوئے اپنے بستر کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بیلی ان کی رضائی میں گھس کر گئی تھی، تو انہوں نے بیلی کو بستر سے نکالنا مناسب نہ

سمجھا، بستر کی بجائے مصلیٰ کے اوپر پھٹرتے ہوئے بیٹھ کر انہوں نے رات گزاروی اور ربیلی کے آرام کا خیال کیا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مریدین میں ایک وہ ہستی عطا فرمائی کہ جس کو مجدد الف ثانی ﷺ کہا گیا۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین بخاری ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک کتاب ملا جو زخمی تھا، انہوں نے اس کتبے کے زخم پر پٹی باندھی اور روزانہ کچھ مزدوری کرتے اور جو ملتا وہ گھروالوں کو دیتے اور کچھ حصے سے اسکے لئے غذا لے جاتے۔ انہوں نے اٹھارہ یا بیس دن اس کتبے کی خدمت کی، اس پر التدریب العزت نے ان کو یہ مقام حطا فرمایا کہ ان کو سلسلے کا امام بنادیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک کتبے کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمادیا۔ تو اگر جانور کی خدمت پر یہ مقام عطا فرمایا تو ہم اگر انہوں کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے؟

### چھٹی نشانی:

حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے میں ہر وقت فکر مندرجہ ہے ہیں۔ حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتے ہیں۔

چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری ﷺ فرماتے تھے: اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ میں پورے قرآن کا نجڑا ایک فقرے میں بیان کر دوں تو میں اسکو بیان کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت بتا دیجیے، تو فرمایا کہ پورے قرآن پاک کا نجڑا ایک فقرے میں یوں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرو، نبی مسیح یسوع کو اطاعت سے راضی کرو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو، یہ پورے قرآن پاک کا ایک فقرے میں نجڑا ہے۔“

ساتویں نشانی:

ان کی ساتویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر متواضع بھی ہوتے ہیں اور پر سکون بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو آپ کبھی بے چین نہیں دیکھیں گے، مسکبر نہیں دیکھیں گے، متواضع ہوتے ہیں اور پر سکون بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بے چینی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ جس کا خدا سے تعلق ہو جاتا ہے پھر اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہوتا اور ایسے بندے میں تواضع بھی ہوتی ہے۔ ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں آج لوگ جسم جھکاتے ہیں دل نہیں جھکے ہوتے۔ اور جس کا دل دنیا میں اللہ کے سامنے نہ جھکا جب قیامت کے دن بجدے کا حکم ہو گا وہم سلمون ان کو قیامت کے دن بجدے کی توفیق نہیں ہوگی اس لئے کہ دنیا میں ان کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا۔

آٹھویں نشانی:

اور ان کی آنھوئی نشانی یہ کہ یہ مخلوق کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، یہ اونگ  
اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے  
ہیں، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔

بیکے ہوئے آہو کو پھر سونے حرم لے چل!

چنانچہ شاہ ایران اور رستم کی موجودگی میں ربع بن عامر نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ”اللہ نے ہمیں بھیجا ہے“، ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا! ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، کیسا فقرہ کہہ دیا! ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ تو فرمایا: ”اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ جس کو وہ چاہے اس کو ہم بندوں کی بندگی

سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں۔ عبادۃ العباد سے نکال کر عبادۃ رَبِّ  
الْعِبَاد میں داخل کر دیں۔ اور دنیا کی شُلگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچا گئی اور  
مذاہب و ادیان کے قلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سامنے  
میں لا آئیں۔

### نویں نشانی:

نویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں توکل ہوتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے  
پرد کر دیتے ہیں۔ جس طرح بچہ اپنی پریشانی اپنی ماں کو یا باپ کو بتا کر پر سکون  
ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ والے اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کر کے پر  
سکون ہو جاتے ہیں۔

### دوسری نشانی:

اور دوسری نشانی یہ کہ اللہ کی محبت میں ہی یہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں  
ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے پھر وہ اللہ کی یاد  
میں، اللہ کے کام میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ آج تو ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی توفیق  
نہیں ہوتی، قرآن مجید کے ساتھ وہ وقت گزارنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا!  
کہ کیا یہ ہمارے قلب کی خلمت کی دلیل تو نہیں؟ زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ  
گزاریے۔ اور دیسے بھی اب تو رمضان المبارک آرہا ہے خوب قرآن مجید کے ساتھ  
اپنا وقت گزاریے۔

ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا! نبی علیہ  
السلام کے ساتھ صدقیق اکبر ہندو کا تعلق تھا ایسا تعلق کہ وہ ”ثانی اثنین“ بن گئے تھے۔  
یعنی دو میں سے دوسرے بن گئے تھے، اس لیے صدقیق اکبر ہندو کو نبی علیہ السلام کا شی

کہا جاتا تھا، وہ ہمارے سلسلہ کے اہم میں اگر وہ صاحب قرآن یعنی نبی مسیح علیہ السلام کے شی بے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے شی بن جائیں۔ قرآن کے ساتھ اتنا وقت گزاریں کہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن کا دوسرا ہے۔ توجہ ہم علاوہ قرآن اور ذکر کی کثرت کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔

### منصور حلاج اور فرعون میں فرق:

اچھا! طلباء کے لیے ایک اٹکال اور اس کا پیارا جواب۔ فرعون نے کہا تھا کہ آسارِ بُكْمُ الْأَغْلَى اور مردود بنا اور دوسرا طرف منصور حلاج کی زبان سے بھی نکل گیا تھا کہ آنَا الْحَقُّ۔ مگر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے اولیاء میں سے تھے۔ کیونکہ ان کی زبان سے کسی کیفیت میں یہ الفاظ نکل گئے تھے، مگر تھے اللہ کے مقبول بندے۔ تو یہ کیا وجہ بھی؟ کہ ادھر سے بھی انا کا لفظ نکلا اور ادھر سے بھی انا کا لفظ نکل، لیکن ایک مردود بنا اور ایک مقبول بنا، تو فرق کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے مشائخ نے بات کو کھولا، انہوں نے فرمایا ایک مردود بنا کہ اس نے انا کہا تھا اللہ کو مٹانے کے لیے اور دوسرا مقبول بنا کہ اس نے انا کہا تھا اپنے آپ کو مٹانے کے لئے۔ تو چونکہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے انا کہا تھا اسیے اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔

### زندگی کی ترتیب سیدھی کریں:

ایک بات ذرا توجہ سے سنئے! ایک ٹرین میں دو تین دوست بیٹھے تھے اور سب کی ایسے ہی غافلانہ زندگی تھی، بالکل صاف سترے (کلین شیو) تھے، چہرے پر سنت کانٹان ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے، چہرے پر

سنت ہے اور ان کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے اور انہوں نے انگریزی اخبار کو پڑھنا شروع کیا مگر اس کو الٹا پکڑا ہوا تھا۔ اب جب تینوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب انگریزی کا اخبار پڑھنا چاہتے ہیں مگر الٹا پکڑا ہوا ہے، تو وہ بننے لگے، تحقیق ہے لگنے لگے۔ تو مولانا تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا کہ بھی؟ خیریت تو ہے آپ لوگ کیوں اتنا فس رہے ہیں اور نہیں اڑا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا! لگتا ہے کہ آپ کو انگریزی تو آتی نہیں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے انگریزی اخبار لے کر بینھ گئے ہیں اور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے! تو مولانا نے کہا: اچھا! میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، آپ نے تو اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے۔

مولانا صاحب نے کہا: دیکھو! میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا، دیے میں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے اور میں ایک وکیل ہوں، انگریزی بولتا ہوں اور انگریزی پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ انگریزی کا اخبار کیسے پڑھا جاتا ہے، مگر میں نے آپ لوگوں کی نصیحت کیلئے اخبار الٹا پکڑ لیا۔ مجھے الٹا اخبار پکڑے دیکھ کر آپ ہنسنے لگے کہ میں نے کیسے اخبار پکڑا ہوا ہے؟ دیکھیں! میں نے اخبار کا سرا الٹا پکڑا آپ مجھ پر ہنسنے لگے جب کہ عزیز و! آپ نے زندگی کی ترتیب کا سرا الٹا پکڑا ہوا ہے، زندگی کی ترتیب تو یہ ہوئی چاہیے کہ انسان کی آخرت بن جائے اور آپ اسی دنیا میں مرضی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی تو زندگی کی ترتیب کا سرا الٹا پکڑا، ہوا ہے، تو پھر آپ پر بھی تو ہنسا چاہیے۔ میں نے تو چھوٹا سا نقصان کیا، اخبار الٹا پکڑا تم نے پوری زندگی کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے۔ پھر نوجوانوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہڈے پڑھے لکھے بندے تھے، انہوں نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسا کیا۔

اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو آج ہم نے بھی زندگی کے الٹے سرے کو

پکڑا ہوا ہے۔ سید حاسر اتویہ کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی والی زندگی گزار لیں اور الناس رایہ کہ ہماری نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں، ہم من مرضی کی زندگی گزار لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال بھی نہیں کے ان نئیں مسافروں کی طرح ہوا اور ہم نے بھی زندگی کی ترتیب کو والا پکڑا ہوا ہو۔ اگر والا پکڑا ہوا ہے تو آج کی اس محفل میں ہم سچی توبہ کر کے زندگی کی ترتیب کو تھیک کر۔ نے کی کوشش کریں اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کی نیت کر لیں۔

### (اجتماع کیلئے ہدایات)

آپ اس اجتماع میں اپنا کچھ وقت لے کر آئے، اب آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو قیمتی بنالیں۔ اس سلسلے میں کچھ باقوس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

#### ذکر و فکر میں وقت گزاریں:

ایک تو اپنا وقت ذکر و فکر میں گزاریے۔ غفلت میں، ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت احوال گزارنے میں، کار گزاریاں سنانے میں وقت ضائع نہ کریں۔ پورا وقت ذکر و فکر میں گزارنے کی کوشش کریں، ایک لمحہ بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو۔

#### پر سکون نمازوں کی کوشش کریں:

دوسراء جتنا وقت یہاں لے کر آئے ہیں، اس میں تسلی کی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، ہر نماز کے وقت میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ! مجھے آپ نے یہاں پہنچا دیا۔ اب میں تسلی کی چند رکعت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ جو بھاگی دوڑی کی نمازیں ہیں، یہ نہ پڑھنا۔ ہر نماز کے وقت، وقت سے پہلے وضو کر کے آئیں، نماز کی سنتیں پڑھیں، فرض ادا کریں اور باقی نوافل وغیرہ پر سکون انداز میں پڑھیں۔ دل میں یہ

نیت رکھیں کہ ہم نے یہاں پر سکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی کوشش کریں، مگر میں تو بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، مگر کے مسئلے ہوتے ہیں تو انسان بھائی دوڑی کی نماز پڑھتا ہے، نہیں! یہاں عورتیں بھی پر سکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں اور مرد حضرات بھی پر سکون نمازیں پڑھیں۔ وقت کی قید نہیں کہ مجھے ایک منٹ میں ختم کرنی ہے یاد و منٹ میں، آپ بے شک اپنی نماز میں پندرہ منٹ لگائیں یا آدھا گھنٹا گائیں۔

### تجدد کی پابندی کریں:

دوسرا کام یہ کریں کہ تجدید کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مگر میں تجدید کی پابندی نصیب نہیں تو کم از کم جو چند دن یہاں آئے ہیں، یہاں تو تجدید کی پابندی کر لیں۔ شیطان یہ کوشش کرے گا کہ آپ عشاء کے بعد ویریک جا گتے رہیں اور جب سوئیں گے ہی ایک بجے تو پھر تم بجے اٹھ کر تجدید کون پڑھے گا؟ الاما شاء اللہ۔ تو آپ ان دنوں میں یہ پابندی کیجیے سونے کے وقت میں سوئیں اور جا گئے کے وقت میں جا گئیں، عشاء کے بعد جلدی سوئیں تو انشاء اللہ تجدید میں اٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔

### پھی تو بہ کریں:

اور ایک عمل یہ کریں کہ مغلولوں میں جب دعائیں مانگی جائیں گی تو ان میں بھی توبہ کی نیت کر کے دعا مانگا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں اور آئندہ پر ہیزگاری، نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمادیں۔ اگر ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی چاہے تو حالات کی بات نہ کریں بلکہ جو بیانات ہوں ان کا ایک دوسرے کیسا تھا مذاکرہ کر لیا کریں کہ بیان میں مجھے یہ بات یوں سمجھ

میں آئی، یہ بات ایسے یاد آئی، یہ مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بیان کے مذاکرے کو اپنی گفتگو بنایجیے۔

### ۔ ممنوعہ چیزیں:

چند چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں:

کھانے کے وقت میں بد نظری، ہٹڑ بازی، میں قطعاً پسند نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر یہاں طلب لے کر آئے ہیں، اصلاح کی نیت سے آئے ہیں تو کھانے کے پچھے بد نظری مت پھیلائیے، الحمد للہ! اتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں، پیٹ بھر کر کھائیں، کھانے کی کمی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اتنا انعام ہے کہ ہر بندہ جی بھر کے، پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے۔ ہٹڑ بازی کیسی؟، تھوڑے وقت کی بات ہے، اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے سب ایک صفائح میں بینچے کر نہیں کھا سکتے تو آپ دوسری نشت میں کھالیں، تو انتظار کر لجیے، اپنے علاقے کے علماء کو ترجیح دیجیے، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیجیے، ان کو پہلے کھانے کا موقع دے دیجیے اور بد نظری سے پرہیز کر لجیے۔ ہم نے اس اجتماع میں بالخصوص خلفاء حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو کھانے پر بینچے دیکھیں اور اس بات کی تسلی کریں کہ ان میں سے کوئی بندہ ہٹڑ بازی اور بد نظری پھیلانے کا باعث نہ ہو۔

دوسرا: بیان کے وقت سونے سے پرہیز کریں یا بیان کے وقت آپ بازاروں میں دکانوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے۔ مسجد کے اعمال ختم ہو گئے، ریست مل گیا، اس وقت میں آپ سوئیں یا اس وقت میں آپ بازار میں جائیں یا اس وقت میں آپ اپنے انفرادی اعمال میں مشغول ہو جائیں، اس کی آپ کو اجازت ہو گی مگر یہ نہیں ہو گا کہ اوہر بیان ہو رہا ہو اور اس وقت میں آپ بازار

میں بیٹھ کر بریانیاں کھار ہے ہوں۔ اپنے وقت پر کام کیجیے چونکہ آپ ایک مقصد دل میں لے کر آئے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً اس محفل کے انوارات نصیب ہوں گے۔

اللہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے:

اصول وضوابط کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاء اللہ خالی نہیں ہوئیں گے۔ آج کی بھی کیفیت نوٹ کر لیجیے اور جب دعا کے بعد یہاں سے رخصت ہونے لگیں گے تو اس وقت کی کیفیت بھی دیکھ لیجیے آپ کامل گواہی دے گا کہ گناہوں کا بوجہ یہاں چھوڑ کر انہیوں کا نورول میں لے کر یہاں سے واپس چارے ہیں۔

اللَّهُرَبُ الْعَزْتُ كَسِيَّ كِيْ مَحْنَتْ كُورَايَنْگَانْ نَهِيْسَ فَرْمَاتَتْ بَلْكَدْ صَافَ فَرْمَادِيَا  
 » إِنَّى لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلَ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى «  
 [مرد ہو یا عورت ہو میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا]

قبولیت بڑی نعمت ہے:

تہجد میں چند ایک دعائیں ضرور مانگیں، ایک دعا تو یہ مانگیں کہ اے اللہ! ہمارے اعمال قبول کرنے لیجیے ہمارا آنا قبول کر لیجیے۔ یہ قبولیت بڑی نعمت ہے، ایک بندے کا ایک جبشی نو کرتا تھا، اسے اس سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کا اصل نام تو عبید تھا لیکن اس نے اس کا نام یوسف رکھا ہوا تھا۔ اب بتائیں محبت ہے نا اغلام جبشی ہے، کالا اور نام اس نے اس کا رکھا ہوا ہے یوسف، اس پر کسی نے شعر بنایا:

قبولیت اسکو کہتے ہیں اور مقبول ایسے ہوتے ہیں  
عبدید سود کا لقب ہے یوسف ثانی  
سود کا لے کو کہتے ہیں، انہوں نے عبدید سود کو یوسف ثانی کہا ہوا تھا۔ تو بھائی!

جب محبت ہو جائے تو پھر بندہ کا لے کو ترجیح دیتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے کہ ”گوریاں نوں پران کرو“ تو اللہ رب العزت بھی اگر ہمیں قبول فرمائیں تو ہمارا کالا پن جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، پھر انشاء اللہ وہ بھی دھل جائے گا اور اللہ کی نظر میں ہم بھی یوسف بن جائیں گے۔ اگرچہ اپنے عملوں کی وجہ سے تو سو ہیں، اندر بھی سیاہی ہے اور چہروں پر بھی دیکھنے میں اعمال کی سیاہی نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو یقیناً یہ سیاہی دھل جائے گی اور اللہ کی نظر میں ہم یوسف بن جائیں گے۔

### قبولیت کے لیے دعائیں:

قبولیت مانگیں، دعا یہ مانگیں کہ اے اللہ! ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آجائیں۔ اللہ اکبر۔ جب تہجد میں یہ دعا مانگیں رورو کر مانگیں گے تو پھر دیکھنے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ڈھانپے گی۔

میں نور کے ترکے میں جس وقت اخھا سو کر  
اللہ کی رحمت کے دروازے سکھلے پائے  
عاصی کی صدا پہ جو مانگنے والا ہو  
ہاتھ اپنی حقیقت کے، آگے میرے پھیلانے  
جور رزق کا طالب ہو، میں رزق اسے دوں گا  
جو طالب جنت ہو، جنت کی طلب لائے  
جس جس کو گناہوں سے، بخشش کی تباہ ہو  
وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے  
وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں  
میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے

یہ سن کر ہوئے جاری، آنکھوں سے میرے آنسو  
 قسمت ہے محبت میں روتا ہے آجائے  
 آقائے گدا پور، سائل ہوں تیرے در کا  
 میں اور تو کیا مانگوں، تو ہی مجھے مل جائے  
 کاش! کہ ان دنوں میں ہم اللہ سے ایسے دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العزت  
 ہمیں قبول فرمائیں اور اپنا تعلق نصیب فرمادیں۔ چنانچہ دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ اے  
 اللہ! ہم یہاں پر اسلیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح  
 ہو جائے، ہم نیک نہ بن سکے، اللہ! تیرے نیک بندوں کی مجلس میں آئے ہیں تاکہ  
 تو ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرمادے۔ قرآن مجید کی آیت ہماری اس نیت کو یوں بیان  
 کرتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دعائیں کرتے تھے،

وَنَطْمَعُ أَنْ يُذْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (ہائدہ: ۸۳)

ہم بھی دلوں میں یہ نیت کر لیں پروردگار عالم! ہم حاضر تو یہاں چل کر ہو گئے مگر  
 دل کی تمنا یہ ہے،

وَنَطْمَعُ أَنْ يُذْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ

اللہ نیک بن تو نہیں سکے مگر تیرے نیک بندوں کے مجمع میں آکر بینے گئے ہیں،  
 دل میں یہ تمنا کھتے ہوئے کہ اللہ! ہمیں بھی آپ نیکوں میں شامل فرمائیجیے۔ ہم  
 جیسا بھی انہی میں چاہتے ہیں، مرنا بھی انہی میں چاہتے ہیں اور قیامت کے دن کھڑا  
 ہونا بھی انہی میں چاہتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرمائیجیے اور نیکوں میں  
 ہمارا شمار فرمائیجیے۔

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ  
 لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا

امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے یقیناً ہمیں نیکوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين .





﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُنْجِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (انحل: ٩٧)

## اعمال صالح اور یقین کامل کے ثمرات

حضرت اقدس کا یہ بیان 25 اکتوبر 2007ء کو جامع مسجد  
زینب مسجد الفقیر الاسلامی جھنگ میں تیرہویں سالانہ اجتماع  
کے موقع پر بعد از نماز مغرب ہوا۔

## اقتباس

اعمال کے اندر طاقت اور اثرات ہیں، یہ خدائی و عدہ ہے، جیسے ما دی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بھلی کا جھٹکا آنے سے بندے کو موت آتی ہے، بند اکوئی سدمی بھل کی نگلی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ زہر کھالینے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ہر بندہ زہریلی چیز سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح اگر یقین ہو جائے کہ نیک اعمال کرنے پر اللہ کی طرف سے خیر ملے گی اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف سے عذاب ہو گا تو پھر کوئی بھی انسان گناہ کی طرف قم نہ بڑھائے، بلکہ اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپر خرچ کرے۔

(حضرت مولانا ناصر زوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## اعمال صالح اور یقین کامل کے ثمرات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَیْنَا أَمَّا بَعْدًا  
 فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخُيَّنَّهُ حَيْزَةً طَيِّبَةً  
 وَلَنْخُزِّنَّهُ أَجْرَهُمْ بِمَا حَسِنُوا يَعْمَلُونَ ۝  
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝  
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

### ہر انسان کی خواہش:

اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں:  
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْشَى جَوَّوْلَی بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا  
 عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہو فَلَنْخُيَّنَّهُ حَيْزَةً طَيِّبَةً، ہم ضرور  
 باضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان اور نیک  
 اعمال کے ساتھ پاکیزہ زندگی ملنے کی خوشخبری مل رہی ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے  
 کہ مجھے پاکیزہ زندگی ملے۔ یہ آیت مبارکہ اس راز سے پرودہ اٹھ رہی ہے کہ اسے کلمہ  
 پڑھنے والو! اگر تم نیک اعمال کو اپنالو، زندگی کو نیکی پر لے آؤ، تو اس کے بد لے میں  
 اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔

## اعمال کے اثرات

اللہ رب العزت نے اعمال کے اندر طاقت رکھی ہے۔ اعمال کے اندر اثرات رکھے ہیں۔ ہر عمل کے کچھ نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔

**نماز اور فلاح:**

چنانچہ جو انسان اچھے طریقے سے نماز پڑھے، اس کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔

ارشاد فرمایا:

﴿فَلَمَّا أَفْلَحَ اللَّهُمَّ مِنْ أَمْلَأْتَ الْأَرْضَ حُكْمَكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمْ إِنَّمَا يَعْلَمُ خَاطِئُهُمْ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ أَنَّمَا يَعْلَمُ خَاطِئُهُمْ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ﴾  
 [تحقیق فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں]

فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے ہال ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ اور یہ اچھی نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے کو عطا فرمادیتے ہیں۔

**ذکر اور اطمینان قلب:**

ذکر کرنے پر اللہ کی طرف سے اطمینان قلب ملنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد

فرمایا:

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾

جان لو! اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔

— نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے  
 تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

تو اللہ کی یاد سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، یہ التدرب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔

### روزہ اور تقویٰ:

روزہ رکھنے پر انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے اور تقویٰ ملنے پر اللہ کی طرف سے بندے کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ روزے کو فرض کرنے کا جو مقصد بتایا گیا وہ ہے تقویٰ ہے، فرمایا:

**لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ [تاکہ تم تمق ہو جاؤ]**

اور اس تقویٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

**﴿لَوْاَنَ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَهْنُوا وَأَتَقَوْا الْفَتَحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾**

[اگر یہ بستیوں دیسیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لئے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے] ہر بندے کے دل کی تمنا ہے کہ برکتیں نصیب ہوں، میری صحت میں برکت، وقت میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، میرے کاموں میں برکت تو ہم ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکتیں چاہتے ہیں۔ اگر تقویٰ بھری زندگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم تمہارے اوپر برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔

### حج اور مغفرت:

حج کرنے پر انسان کے لئے مغفرت اور وسعت رزق کے وعدے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بین الحج و العمرہ فانهما ینفعان فقرہ و الذنوب

تم حج اور عمرہ پار بار کرو اس لئے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ  
بندے کو تنگدستی اور گن ہوں سے نجات عطا فرمادیتے ہیں۔ تو مغفرت بھی ملی اور رزق  
بھی بندے کا بڑھ گیا۔

### اعمال کی طاقت کا یقین:

اعمال کے اندر طاقت اور اثرات ہیں، یہ خدائی وعدہ ہے، جیسے وہی چیزوں  
کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بھلی کا جھٹکا لگنے سے بندے کو موت آتی  
ہے، لہذا کوئی آدمی بھلی کی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ زہر کھائیں سے انسان کی موت  
واقع ہوتی ہے، ہر بندہ زہریلی چیز سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح اگر یقین ہو جائے کہ  
نیک اعمال کرنے پر اللہ کی طرف سے خیر ملے گی اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کی  
طرف سے عذاب ہوگا تو پھر کوئی بھی انسان گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے بلکہ اپنی  
پوری زندگی نیکی کے اوپر خرچ کرے۔

### اعمال بنانے اور بگاڑنے کا نتیجہ:

دو بندے ایک کام کرتے ہیں۔ ایک کام بنا ہوا، فلاح مل گئی۔ دوسرا کام  
بگزا ہوا، اس کو اللہ کی طرف سے سزا مل گئی۔ ذرا غور فرمائیے کہ اچھی نماز پڑھنے پر اللہ  
تعالیٰ کی طرف سے فلاح کا وعدہ ہے، فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾

[فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں]

چنانچہ جس کو فلاح نصیب ہو گئی وہ جنت میں جائے گا اور اسی نماز کو بگاڑنے سے  
جہنم میں جانے کا معامل۔

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝﴾

(ماعون: ۲، ۱)

[تابہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں] ایک ہی نماز ہے بنانے والے کو جنت میں گئی، غفلت کرنے والے اور اس عمل کو پھاڑنے والے کے لئے اللہ نے جہنم کی بات کر دی۔ چنانچہ اچھا قرآن انسان کے لئے سلامتی کا سبب۔ جو انسان حافظ قرآن ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ

إِقْرَاء..... وَرَقِيلٌ كَمَا كُنْتَ تُرِيقِيلٌ فِي الدُّنْيَا

قرآن پڑھا اور جنت کا درجہ پڑھا تھہر تھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں تھہر تھہر کے پڑھتا تھا۔ اب یہ جنت میں گیا قرآن کی وجہ سے، اور جنت میں اس کو ملائکہ بھی سلام دے رہے ہیں اور جنتی بھی سلام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی۔ اور اگر اسی قرآن کی خلاف ورزی کر کے قرآن کو پڑھا تو حدیث میں آتا ہے

رَبُّ الْقَارِئِينَ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

[کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے]

تو ایک ہی عمل ہے، اگر اس کو بینالیا تو رضامیں رہی ہے، اور اگر بگاڑلیا تو انسان کو اللہ کی طرف سے سزا میں گئی۔ توجہ انسان نے اعمال کرنے تھی ہیں تو کیوں نہ سنوار کر کرے؟ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔

رجوع الی اللہ کا نتیجہ:

چنانچہ آپ ذرا غور سمجھئے کہ سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسالم کو اس تدریب العزت نے اس دنیا

میں ایک بادشاہت دی کرنا پہلے کسی کوئی نہ بعد میں۔ انسانوں کے بادشاہ، جنون کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، خشکی، تری کی ہر مخلوق کے بادشاہ، ان کا حکم ہر ایک کے اوپر چلتا تھا: ایسی اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائی! لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرب ملا، قبولیت ملی، وہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ملی۔ فرماتے ہیں **يَعْمَلُ الْعَبْدُ مِثْرًا كَتَنَا أَچْحَابَنَدَهُ تَهْ إِنَّهُ أَوَّابٌ** [وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا] ثُمَّ العَبْدُ كَاجْتَاجَ ان کے سر پر سجا یا اس کی بنیاد "اللہ کی طرف رجوع" فرمایا۔

دوسری طرف دیکھیے! حضرت ابوب عینہ کے اوپر امتحان آگیا، ساری جائیداد چل گئی، باغات چلے گئے، بیوی بھی نوت ہو گئی، پچھے بھی مر گئے اور خود بیماری میں بٹلا ہو گئے۔ اتنی آزمائشیں لیکن ان سب کے باوجود، اللہ رب العزت کا قرب ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** (ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا) کیا شاہانہ کلام ہے،

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْمَلُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

تو معلوم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت ہے پھر بھی رجوع الی اللہ کی وجہ سے قرب مل رہا ہے۔ اور ظاہری طور پر فقر و فاقہ، شکستی ہے لیکن آویاب ہونے کی وجہ سے نعم العبد کا خطاب مل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرب ملتا ہے آویاب ہونے کی وجہ سے، اس میں دنیا کی مال و دولت کا کوئی دخل نہیں۔ ایک انسان جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا اولی بن سکتا ہے اور ایک انسان فوم کے گدوں کے اوپر بیٹھ کر بھی اللہ کا اولی بن سکتا ہے۔

اعمال بنانے پر دو خوشخبریاں:

دنیا ایک ظاہری اور مادی چیز ہے، اس راستے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

چنانچہ اعمال بنانے والے کو دعیتیں، دو خوشخبریاں ملیں۔ پہلی خوشخبری، فرمایا:

﴿فَلَئِنْ خَيَّنَهُ حَيْزَةٌ طَيَّبَةٌ﴾

[پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے]

دوسری خوشخبری فرمایا:

﴿وَلَئِنْ جَرِيَّنَهُ أَجْرُهُمْ بِالْأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت اچھا دیں گے]

اس عمل پر وہ را انعام ملے گا، دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بڑا اجر۔

اور جتنا اجر اتنے ان کے درجات:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا

چنانچہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات مل گئے۔

## (اعمال بگاڑنے پر دو عذاب)

اور اعمال بگاڑنے والے پر دنیا میں دو عذاب ہوتے ہیں۔

پہلا عذاب:

فرمایا:

﴿مَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (طہ: ۱۲۳)

جو میرے قرآن سے زخ پھیرے، ہم اس کی معيشت کو شنک کر دیتے ہیں۔ شنک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بکری تھوڑی ہوتی ہے، پسے نہیں ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے سکون رزق دیتے ہیں مَعِيشَةً ضَنْكًا ایسا رزق ملتا ہے کہ اس کے سر پر میشن (بے چینی) ہوتی ہے۔

چنانچہ آپ دیکھیں بڑے بڑے انڈسٹریوں والے راتوں کو، نہیں سکتے۔ او جی! کمپنی کا شیئر کھلانا ہے، پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے؟ ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی۔ او جی! ہم نے کنسٹریکٹیون تھا اور وہ رک گیا ہے، بڑے پریتان ہیں۔ ہم نے ایک ڈیل کرنی تھی، موقع پرندہ ہو سکی، بڑی پریشانی ہے۔ تو کروڑوں میں کھلنے والے بھی پریشان۔ معینہ شہنشاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے رزق کو ایسے ٹنگ کریں گے کہ وہ بے سکون ہی رہے گا۔ رزق کی طرف سے پریشان ہی رہے گا۔ کبھی ادھر کوئی پیسے دبا کر بیٹھ گیا، کبھی کوئی دھوکے سے پیسے لے کر چلا گیا، پریشان ہی رہے گا۔ ذہنی طور پر یہ لوگ ہر وقت ہی رہتے ہیں یہ لوگ Occupied نماز میں بھی اسی مال کا خیال رہتا ہے، سکون ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی مصروفیت اندادے دیتے ہیں کہ اپنے گھروالوں کے ساتھ سکھ کے دو لمحے گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ معینہ شہنشاہ فرمایا: ہم اس کی معیشت کو ٹنگ کر دیتے ہیں، بے سکون روزی دیتے ہیں۔

### دوسراءذاب:

دوسراءذاب یہ ملتا ہے۔

﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْفَى﴾

[اور قیامت کے دن ہم اس کو انداھا کھڑا کریں گے]

یا اللہ ایسی سزا ہے؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے جزاء من جنس العمل جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، فرمایا: دنیا میں اس نے میری تعلیمات سے، احکام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنارخ پھیر لیا، یہ انداھا بنارہا، جب دنیا میں اس نے انہی ہی پن کا مظاہرہ کیا، ہم قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے انداھا کھڑا کریں گے۔ اب بتائیے! اعمال بنانے پر کس قدر اچھا یا اس مل رہی ہیں اور اعمال بگاز نے پر بندے کو کس قدر نقصان نصیب ہو رہا ہے؟

## اپنی ذات پر محنت کی ضرورت:

لہذا جو شخص چاہے کہ میں اپنی ذات کو قیمتی بناؤں، اس کو چاہئے کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے، وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ لکڑی پر محنت کر دی، لکڑی فرنیچر بن کر کس قدر بہنگی بکتی ہے! انسان نے پھر پر محنت کی پھرتا پاش ہو کر لکھتا ہے تو اعلیٰ ریت پر لکھتا ہے۔ لو ہے پر محنت کی، لوہا ہوا میں اڑتا پھرتا ہے اور جہاز کی دیکھو کتنی قیمت ہے؟ حتیٰ کہ سلیکون، ریت کو کہتے ہیں، اس ریت پر بندے نے محنت کی اور سلیکون، سے اس نے سرکٹ بنائے، سرکٹ اتنے مہنگے کہ اگر اس کے ہم وزن سونا تولا جائے تو سونے سے تین گناہ زیادہ ان کے اوپر قیمت لگ رہی ہے۔ تو انسان کی محنت اگر ریت پر گلی تو ریت سونے سے تین گناہ قیمت بن گئی۔ اے بندے! اگر تو اپنی محنت اپنی ذات پر لگائے گا تو کیا اللہ کی نظر میں تو قیمت نہیں بن جائے گا؟ اگر لوہا پرواز کر سکتا ہے تو کیا انسان روحانی طور پر پرواز نہیں کر سکتا؟ تو محنت کا رخ اپنی ذات کو بنائیجئے۔

## دوسروں کے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں فکر مند:

ایک شہری اصول: انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ آج ہم الٹ کرتے ہیں، دوسروں کی فکر ہوتی ہے: اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اور اپنے بارے میں بڑا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن بڑے آرام و سکون میں ہوں گے۔ چنانچہ عام آدمی قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہے کہ قیامت کا دن ہو گا، لوگ کھڑے ہوں گے، حساب ہو رہا ہو گا، بڑا میزان ہو گا، جس پر نیکیاں، گناہ ٹھل رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور دسرے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے اور میں! دیوار پر بیٹھا تماشہ

وکیھ رہا ہوں گا۔ اپنے بارے میں بندہ یہ سوچتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یا تو میں جنت والوں میں سے ہوں گا یا میں بھی جہنم جانے والوں میں سے ہوں گا۔

قیامت کے دن کو اللہ رب العزت 'یوم التغابن' کہتے ہیں۔

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ﴾ (تغابن: ۹)

اے انسان تیرے لئے وہ ہار جیت کا دن ہو گا۔ یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا، یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر ایسا دن ہے تو کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اگر حسن ظن آگیا اور اپنے بارے میں فکر لگ گئی تو یہ انسان کا میاب ہو گیا۔

## نیکوں اور بروں کے حالات میں فرق:

چنانچہ اس دنیا میں ظاہری طور پر نیکوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں، بروں پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ ظاہر میں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے، نیک بندہ اور برا بندہ، ظاہر میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر تو فرق نہیں ہوتا مگر باطن میں فرق ہوتا ہے، حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ایمان سے خالی، دوسرا ایمان سے بھرا ہوا دل رکھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پتلا سا بائس ہو، تو دیکھنے میں گنے کے بالکل مشابہ نظر آتا ہے، ظاہر میں فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن پانس اندر سے بالکل خشک ہوتا ہے اور گناہ اندر سے سارے کاسارا میٹھے رس کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں ایک مگر حقیقت میں مختلف۔

اسی طرح حالات عام بندے پر بھی آتے ہیں اور آزمائش کے حالات مومن پر بھی آتے ہیں۔ ظاہر ایک ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے

یہ نکتہ سمجھ لیں کہ فرمانبرداروں پر بھی حالات آتے ہیں اور نافرمانوں پر بھی آجاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا!!

### پہلا فرق:

پہلا فرق یہ ہے کہ نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع میں آتی ہیں۔ پھر وہ ان نعمتوں کی ناقدرتی کرتے ہیں اور ناقدرتی کرنے پر اللہ ان کی پکڑ فرماتے ہیں، جبکہ فرمانبرداروں کے ساتھ اللہ کی مدد آخر میں آتی ہے۔

﴿ حَتَّىٰ إِذَا سَتَّيْسَ الرُّسُلُ وَظَلَّمُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴾ (یوسف: ۱۱۱)

( حتیٰ کہ جب رسول بھی مایوس ہو گئے اور گمان کر بیٹھے کہ وہ جھٹا دیئے گئے )

انہوں نے یہ جان لیا کہ شاید ان کی دعوت کو محکرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جَاءَهُمْ نَصْرًا أَنَّكَمْ نَصْرًا اُنَّكَمْ نَصْرًا کے اوپر ہماری مدد آگئی۔ تو نافرمانوں کو اللہ پاک ابتداء میں نعمتیں دیتے ہیں اور آخر میں ان کی پکڑ فرماتے ہیں، ان کی گستاخت بناتے ہیں اور فرمانبرداروں سے شروع میں مجاہدہ کر دالیتے ہیں اور آخر پر جا کر اپنی مدد اور انعامات ان کے شامل حال فرمادیتے ہیں۔

### دوسرा فرق:

مصیبت نیکوں پر بھی آتی ہے اور ہر دوں پر بھی، مگر نافرمان پر مصیبت ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور بلڈ کے زیادہ نکلنے سے یہ صاحب فوت ہی ہو گئے۔ چھری تو اس کو گلی، خون بھی لکلا، مگر نتیجہ اس کی موت کے ساتھ لکلا۔ اور فرمانبرداروں پر بھی مصیبت آئی، مگر اس کی مثال ایسے کہ جیسے جسم میں پھوزا تھا ڈاکٹر نے آپریشن کے لئے چھری چلائی۔ چھری یہاں بھی چل رہی ہے، خون یہاں بھی نکل رہا ہے، لیکن آپریشن کا انجام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیکاری سے اس کو صحیح عطا فرمادی۔

ظاہر ایک جیسا مگر انعام میں فرق ہوتا ہے۔  
 نافرمان کو رزق ملتا ہے تو ایسے، جیسے چوبے کو پکڑنے کے لئے کوئی پرانے کا نکرا  
 پنجھرے میں لٹکا دیتا ہے، اب وہ بڑا خوش پھر رہا ہے کہ کھانے کو پرانا حمل گیا مگر وہ یہ تو  
 نہیں جانتا کہ اسی پرانے کے کھانے میں میری گردن پکڑی جائے گی اور مجھے جان  
 سے ہی مار دیا جائے گا۔ نافرمان کو پرانا حمل، مگر پرانے کا نکرا اس کے لئے موت کا  
 سبب ہنا اور فرمانبرداروں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، مگر ایسے، جیسے کوئی بولنے  
 والے طوٹے کو چوری کھلاتا ہے۔ یہ جو بولنے والے طوٹے ہوتے ہیں ناکبھی سلام  
 کرتے ہیں، کبھی اللہ کا لفظ بولتے ہیں لوگ ان کو بڑے شوق سے پالتے ہیں، ان کی  
 بڑی خدمت کرتے ہیں اور میاں مٹھو کو چوری کھاتے ہیں، مگر یہ جو چوری ہے یہ نعمت  
 کے طور پر مل رہی ہے۔ اور روئی اس کے لئے موت کا پیغام بن کر آ رہی ہے  
 ظاہر و نون کا ایک ہے، مگر ایک کے لئے موت کا سبب ہے اور دوسرے کے لئے  
 زندگی اور صحت کا سبب ہے۔

### فتح ابواب اور فتح برکات:

طلاء کے لئے نکتے کی بات ہے۔ نافرانوں پر التدریب العزت جو نعمتیں سمجھتے  
 ہیں اس کا نام التدریب العزت نے ”فتح ابواب“ رکھا۔ دروازے کھول دیتے ہیں۔  
 فرمایا:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾

(انعام: ۱۳۳)

[جب بھول گئے جوان کو نصیحت کی تھی ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیئے]  
 تاکہ یہ نعمتیں پائیں، عیاشی کریں اور اچھی طرح ہماری پکڑ میں آئیں۔ فرماتے  
 ہیں جب وہ خوب ہم سے غافل ہو گئے:

﴿أَخْذَنَا هُمْ بَعْثَةً﴾

(ہم نے اپنے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا)

فتح ابواب تھی۔

اور فرمانبرداروں کے لئے فرمایا کہ جو شکی اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۹۶)

[البَشَّرَهُمْ نَحْنُ نَحْولُ دِينَ إِنَّكُمْ أَنْجَلْتُمْ مِّنْ سَبَقَتْهُمْ تَوْانَ كَمْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ بِرَبَّكُمْ هُوَ أَنْجَلْتُمْ]

آزمائش۔۔۔ مومن اور فاسق دونوں پر:

دیکھئے! ایمان والوں کو بھی تکالیف آتی ہیں، مگر اللہ نے ان کو آزمائش کہا: "ہم آزماتے ہیں، نیست لیتے ہیں"۔ ہم دوروپے کا اگر گھر ایسی نہ! تو ٹھوک کر دیکھتے ہیں، کچا ہے یا پکا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جنت کے بدالے بندے کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آزماتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ مگر یہ آزمائش مومن پر اور طرح سے آتی ہے اور فاسق و فاجر پر اور طرح سے آتی ہے۔ جب فاسق پر آتی ہے تو اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں پر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا۔ کیسا تھا؟ ارشاد فرمایا:

﴿وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذَنِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (السجدہ: ۲۱)

[ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجنیں گے، ممکن ہے یہ واپس لوٹ آئیں।]

تو نافرمانوں پر جو مشقتیں آئیں اللہ نے اس کے لئے عذاب کا فقط استعمال کیا اور ایمان والوں کے لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں آزمائیں گے۔

فرمایا:

﴿ وَلَنَبْلُوْنُكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالثُّمَرَاتِ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران: ۱۵۵)

[اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، اور مالوں، جانوں اور بچلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو]

کبھی جان میں کی، کبھی مال میں کی۔ فرمایا کہ ان تمام حالات میں جو بھی صبر کے ساتھ رہے گا، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔

تو اللہ رب العزت کا معاملہ مختلف ہے، اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔

### عبادات میں سستی کا نتیجہ:

چنانچہ جو بندہ عبادات میں سستی کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی اپنے دشمن پر قابو پائے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو اس کے پاس سب سے مہلک چیز ہوتی ہے، وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ فوجی لوگ جب دشمن کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں Hands up (ہاتھ اور پر کریں) اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ جاتا ہے تو سب سے مہلک ہتھیار جو بندے کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو بندے سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اسْتَخُواْذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَإِنْهُمْ ذُكْرُ اللَّهِ ﴾

[شیطان ان پر غالب آگیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا]

تو شیطان کا سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی یاد سے غفل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی یاد میں لگا رہا تو ہمارا اور اس پر نہیں چل سکے گا، تو مومن شیطان کے وار سے بچے۔ دیکھئے! شیطان کے وار سے بچنے کے لئے اللہ کے پیارے حبیب ﷺ نے ایک ایک بات ہمیں سمجھادی، کھول کھول کر بتایا۔ اس طرح کرو گے، شیطان آجائے گا، حملہ کرے گا، تمہیں درغلائے گا۔

### (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بسم اللہ کی برکت سے شیطانی اثرات سے حفاظت

کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا:

نبی ﷺ نے فرمایا: ”آدمی اگر کھانا کھانے میٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔“ دیکھئے شیطان کے نقاب لگانے کے کون کون سے راستے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ان راستوں کو کھول کھول کر بتایا ہے۔ لہذا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ تاکہ ہم شیطانی اثرات سے بچ جائیں۔ جب کھانے میں شیطانی اثر شامل ہو گا تو ظاہر ہے، جو طاقت بندے کو ملے گی وہ بندے کو گناہ پر آمادہ کرے گی۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔

بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ پہلے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے، انہیں درمیان میں یاد آئی تو انہوں نے درمیان میں پڑھ لی، تو اللہ کے نبی ﷺ مسکرا پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب ﷺ! کیسے مسکرائے؟ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے سب کھایا پیا انکال دیا اور یہاں سے دفع ہو گیا۔ تو بسم اللہ پڑھنی کتنی ضروری؟

### بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کرنا:

آگے دیکھئے! حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، شیطان رات کے وقت اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات کتنی آسان ہے مگر کتنی زیادہ اہم ہے! جب بھی انسان رات کو گھر کا دروازہ بند کرے، گھر کی عورت گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کے ہی بند کرے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب اکثر گناہ راتوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تو جب گھر میں شیطان آیا ہی نہیں تو ایک تواریخ کے گناہوں سے بچے، دوسرا تجد اور فجر کی نماز میں اٹھنا آسان ہو گیا، شیطان جو گھر میں نہیں ہے، ورنہ تو تھپکیاں دے دے کر سلا دیتا ہے، کافوں میں آکر پیشاب کر دیتا ہے۔

حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا، وہ حقیقت شیطان اس کے کان میں آکر پیشاب کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو بھی شیطان کو روکنے کا کتنا اچھا طریقہ کہ انسان سنت کے مطابق اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔

### بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء جانا:

اور دیکھئے! حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، مسنون دعا پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا اور اگر پڑھنا بھول جائے گا تو شیطان بیت الخلاء میں ساتھ داخل ہو گا اور اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا تو بندے کو شہوانی خیالات آئیں گے۔ دیکھئے جی مسیح نے ایک ایک بات سمجھادی کہ کیسے ہم شیطان کے حملوں سے نج سکتے ہیں؟

کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا:

چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی اگر ضرورت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اب بسم اللہ کے پڑھنے سے نہ جن اسے دیکھ سکتا ہے نہ شیطان اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے مگر کتنے لوگ کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے بھول جاتے ہیں۔ عورتوں نے اگر غسل کرنا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھی تو ان کو جن بھی دیکھیں گے اور شیطان بھی دیکھیں گے۔ پھر کیوں روئی پھرتی ہیں کہ ہمارے اوپر آسیب کا اثر ہو گیا؟ بھی نبی ﷺ نے ایک چھوٹی سی مختصری بات بتائی تھی اس کا اتنا فائدہ تھا کہ انسان کے جسم پر نہ شیطان کی نظر پڑتی نہ جن کی نظر، اور ہم اس عمل کو کرنا بھول ہی جاتے ہیں۔

چنانچہ اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو شیطان ان کے عمل میں شریک ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا لکھتا ہے؟ ہونے والی اولاً و اللہ کی بھی نافرمان، ماں باپ کی بھی نافرمان بنتی ہے۔ بات مختصری، چھوٹی سی ہے لیکن اثرات دیکھو کہ کہاں تک جاری ہے ہیں؟

چنانچہ نبی ﷺ نے ایک دعا بتائی کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوں تو ضرورت پوری ہونے کے وقت اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر! محمد بنین نے لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے حمل اگر خہر گیا تو اللہ تعالیٰ حمل کے اندر شیطانی اثرات سے حفاظت فرمادیں گے۔ آج جس کو دیکھو جی! اولاً نہیں مانتی، اولاً نافرمان... بھی! اولاً تو نا فرمان ہے مگر ہم نے بھی تو سنت کو نظر انداز کیا تھا۔ ہم نے بھی تو نبی ﷺ کے بتائے ہوئے اعمال کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بوئی ہوئی کھیتی تھی، اب اپنی آنکھوں کے سامنے آگئی۔ جہاں انسان نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا، شیطان اسی وقت اس کے پاس پہنچ گیا۔ فہو لہ قرین شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

غفلت کی زندگی گزارتے گزارتے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ شیطان کے۔ وَقَيْضَنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ اللَّهِ تَعَالَى فَرَأَتْتَهُمْ ہیں، ہم نے ان پر ان کے ساتھی متعین کر دیے۔

**فَرَيَّنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَّةٍ  
فَذُخِلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ**

(حُمَّاجَدَة: ۲۵)

[انہوں نے ان کو ان کے اگلے اور پچھلے اعمالِ عمدہ کر کے دکھائے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو پہلے گزر چکیں، ان پر بھی خدا کا اللہ کا قول (عذاب کا وعدہ) پورا ہو چکا ہے شک و خسارہ پانے والوں میں سے ہیں]

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

اب ایک بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لجھتے تو کتنے موقع ہیں جہاں انسان شیطان کے اثرات سے نج جاتا ہے۔

بسم اللہ کی عادت بچ کو بچپن میں سکھانی چاہئے۔ ہر اچھے کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھوا!

دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھتا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، ہر اچھا کام کرتے ہوئے اگر بسم اللہ کی عادت پڑ جائے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن دیکھئے! اس پر کتنے اچھے اثرات بندے کو ملتے ہیں! تو معلوم ہوا اگر ہم اپنی زندگی میں فلاج چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کو اپنانا پڑے گا۔ پھر ہم شیطان کے اثرات سے نج جائیں گے اور اگر اعمال نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی نہیں نج سکیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی نہیں نج سکیں گے۔

## روزِ محشر اعمال کا مام آئیں گے

قیامت کے دن مختلف اعمال سے محروم ہونے کا عذاب مختلف عذاب۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دفعہ خواب میں جہنم کے حالات دیکھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا، میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا۔

### اچھی طرح وضو کرنا کام آئے گا:

ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھا کر اس میت کو اپنی لپیٹ میں لے لے مگر اس کا اچھی طرح وضو کرنا، عذاب قبر سے بچنے کے کام آیا۔ تو معلوم ہوا، اچھی طرح جو بندہ وضو کرے یعنی فراغت کے بعد اگر استنبی کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرے، سنت کے مطابق مٹی استعمال کرے، موجود نہیں تو چلوٹو انکل پیپر استعمال کرے کہ وہ بنا ہی اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے، پھر پانی استعمال کرے، تسلی کرے، پھر اس کے بعد وضواہ تمام کے ساتھ کرے، پانی کپڑوں پر نہ گرنے دے، سنت کے مطابق تمام اعضاء کو مل کے دھوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھے، تسلی کے ساتھ وضو کرنے کی عادت ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اچھی طرح وضو کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دیں گے۔

آج کل عورتیں مہنڈی کم لگاتی ہیں اور ناخن پالش کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ اور جو عام گھریں کی بچیاں ہیں، ماشاء اللہ ان کو ناخن بڑھانے کی بھی عادت ہے۔ جتنے لمبے ناخن اتنی اس میں میل جم گئی اور میل کی جگہ پر پانی نہیں جاتا تو غسل کیسے ہو گا؟ تو دیکھئے! اچھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یا غسل کرتی ہیں تو بالوں کو صحیح طرح

نہیں کھوتی یا صحیح طرح بالوں کو پانی سے تنہیں کرتی اور کئی ایک کو تو غسل کے فرائض کا پتہ ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا: شادی ہو گئی، غسل کے فرائض آتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں! کون کو نے غسل کے فرائض ہیں؟ صابن، تیل اور تولید، یہ تم غسل کے فرائض ہیں، ماشاء اللہ! ایم اے پاس اور غسل کے فرائض کا پتہ ہی نہیں۔

ایک مرتبہ ایک بچی ہمارے جامعہ میں آئی، کہنے لگی: میری امی نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ تو میں آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض پوچھوں۔ مگر والوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر تو بائیس، تھیس سال لگتی ہے، نماز تو بڑے عرصے سے فرض ہو گئی (پندرہ سال کی عمر میں عام طور پر بچیوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے)۔ تو اب تک غسل کیسے کرتی رہی؟ کہنے لگی کیا مطلب؟ پوچھا ماہانہ ایام جو آتے ہیں تو اس کے بعد بھی تو غسل کرنا ہوتا ہے۔ کہنے لگی: وہ تو میں نہاتی تھی بس۔ ساب سال اس لڑکی کے گزر گئے اور اس کو غسل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید شادی کے بعد ہی جا کر غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔

تو طہارت کے مسائل بھی سیکھئے، اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ اللہ رب العزت انیا کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔

### ذکر کام آئے گا:

پھر نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس شیطان لپکا کہ میں اس پر حملہ کروں مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑ کے واپس بھاگا۔ چنانچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہیں پاسکتا۔ اور قابو نہ پاسکنے کی وجہ سے بندے کے دل میں وساوس نہیں ڈالی سکتا۔ تو عمل چھوٹا سا اللہ کا ذکر کرنا اور فائدہ اکتنا بڑا کہ شیطان سے حفاظت ہو گئی۔

## نماز کام آئے گی:

پھر فرمایا: میں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی نماز اس کے کام آگئی اور نماز نے بڑھتے فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ تو جو انسان ابھی انداز سے نماز پڑھے گا، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ خشوع کہتے ہیں: دل میں اللہ کی عظمت ہو، بندہ عظمتِ الہی کو دل میں رکھ کر نماز پڑھے۔ خضوع کہتے ہیں: جو نماز کے اركان ہیں، ان کو بھی تسلی سے ادا کر رہا ہو، تو اس نماز کے پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بچائیں گے۔

## روزہ کام آئے گا:

پھر فرمایا: میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدت پیاس کی کیفیت میں ہے۔ اتنی پیاس کہ برداشت نہیں ہو رہی! جان نکلی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں: اس پیاس کی شدت میں اس کا روزہ کام آگیا اور اس کو حوضِ کوثر سے جامِ مل گیا۔

## حج و عمرہ کام آئے گا:

نبی ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اندر ہیرے میں ہے۔ اس کے ارد گرد بہت اندر ہیرا ہے اور اس کو راستے کی سمجھو نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ پریشان تھا کہ اس کا حج و عمرہ آیا، انہوں نے اس کے ارد گرد روشنی کر دی، جس سے اس کو راستہ نظر آگیا۔ تو حج اور ہیرے کی سعادت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحیح راستے کی رہنمائی فرمادیں گے۔

## صلدر جی کام آئے گی:

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ پڑا پریشان حال کھڑا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں، گھبرایا ہوا، خوف زده، وحشت اس کے اوپر طاری ہے، اکیلا کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو صدر جی کرتا تھا، وہ صدر جی کا عمل آیا اور اس نے اس کی وحشت کو دور کر دیا۔

صدر جی کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بیش آنا۔ ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ یہ صدر جی کا عمل قیامت کے دن کی وحشت سے بچاؤ کا سبب بن گیا۔

## صدقة خیرات کام آئے گا:

پھر نبی ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے اور آگ کی لپٹیں انہری ہیں اور اس کے چہرے تک آرہی ہیں اور چہرہ جھلس رہا ہے مگر میں نے دیکھا کہ اس کے صدقے اور خیرات نے اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر اس کو جہنم سے بچالیا۔ تو اللہ کے راستے میں دینا، دین کے کاموں خرچ کرنا چاہئے۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ لاکھوں لگائے، کئی دفعہ ایک روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بندے کے لئے جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تھوڑا صحیح مگر اللہ کے نام پر انسان دے۔ یہ صدقہ خیرات قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

## خوف خدا کام آئے گا:

پھر نبی ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ جہنم میں گر جائے کہ خوف خدا کا عمل آیا یعنی جو وہ اللہ سے ڈرتا تھا

خوف کھاتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ خوف خدا کے عمل نے آکر اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا، بچالیا۔

پھر فرمایا: میں نے دیکھا کہ آدمی اوند ہے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، گناہ زیادہ تھے مگر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، یہ آنسو کے نکلنے کا عمل آیا اور جس طرح ذوبتے کو دریا سے نکال لیا جاتا ہے اس نے جہنم میں غوطہ کھانے والے بندے کو جہنم سے نکال دیا۔

### درود شریف کام آئے گا:

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پل صراط کے اوپر ہے اور وہ پھسلتا ہے پار با رقدم بڑھاتا ہے، پھر پھسلتا ہے، ذرتا ہے کہ نیچے نہ گر جاؤں، بڑا گھبرا یا ہوا، فرمایا کہ جو اس نے مجھ پر درود شریف پڑھا تھا وہ درود شریف کا عمل آیا اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری سے جہنم کے اوپر کا پل صراط طے کر دادیا۔ تو درود شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے!

### کلمہ کام آئے گا:

پھر نبی ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا مگر دروازے کو بند پایا۔ یہ بھی بڑا پریشان ہوا مگر کلمہ کامل آیا اور کلمے نے اس کے لئے جنت کے دروازے کو کھلوادیا۔

### اچھے اخلاق کام آئیں گے:

اور پھر فرمایا کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

[نہ اللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھئے گا]

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے۔ اس حالت میں وہ بندہ بڑا پریشان تھا، اس بندے کے اچھے اخلاق آئے اور ان کے اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ اگر کامیابی نصیب ہو گی تو اعمال کے ذریعے سے نصیب ہو گی۔ اعمال کے بغیر بندے کو فلاح نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔

### ایمان مفصل..... ایک عہد، ایک وعدہ

اسی لئے ہم جو ایمان لائے تو اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا ہے۔ ایمان مفصل پر اگر غور کریں تو اس میں ہم نے اللہ سے بڑے وعدے کئے۔ ذرا توجہ فرمائیں! ایمان مفصل میں ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا وعدے کئے؟

### اللہ پر ایمان کی حقیقت:

سب سے پہلے ہم نے کہا آمنت بالله میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا؟ ایمان لانے کا مقصد یہ کہ اے اللہ افاعل حقیقی آپ کی ذات ہے، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے اور مسبب الاسباب آپ ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ چیزوں سے امیدیں ہیں اور نہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ”اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر اور چیزوں کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر۔“ اللہ رب

العزت نے حضرت موسیٰ علیہم پر سمجھی بات کھوئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہم کو دو مجرزے دیئے۔ دونوں مجرزوں کے پیچھے ایک مقصد ہے۔

### پہلے مجرزے کا مقصد:

پہلا مجرزہ کیا؟ کہ عصا کو زمین پر ڈالا اور وہ اثر دھا بن گیا پھر اثر دھا کو جب پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات کھوئی کہ اے موسیٰ!

آپ کہہ رہے تھے؟ کہ یہ عصا میرے بڑے کام کی چیز کی ہے۔

(﴿أَتُوْكُوا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنِيمَيْ وَلَيْ فِيهَا مَازِبُ أُخْرَى﴾)

[میں اس پر نیک لگاتا ہوں، بکریوں کو میں اس سے چارہ بھیم پہنچاتا ہوں اور

میرے لئے اس میں بڑے فائدے ہیں]

تو جو فائدے کی چیز آپ سمجھ رہے تھے، جب اس کو آپ نے ہمارے حکم سے زمین پر ڈالا تو وہ ایسی نقصان دینے والی چیز تھی کہ آپ بھاگنے لگے اور جس کو آپ نقصان دہ سمجھ رہے تھے، اس سے بھاگ رہے تھے، ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا، ہم نے دوبارہ اس کو نفع دینے والی چیز میں بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے حکم کے ساتھ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو دودھ کو بندے کی صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں، اسی سے بندے موٹا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں تو دودھ پینے سے Food poising ہوتی ہے اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ سمجھی دودھ زندگی کا سبب ہے اور سمجھی دودھ انسان کی موت کا سبب۔ اس میں زندگی اور موت کے اثرات کس نے ڈالے؟ اللہ رب العزت نے۔

مومن کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت پر ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، بندوں سے امیدیں نہیں لگاتا۔ آج کیا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے؟... نہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا کارخانہ ہمیں پالتا ہے۔ ہمارا دفتر ہمیں پال رہا ہے۔ ہر نس ہمیں پال ا

رہا ہے۔ بھیتی ہمیں پال رہی ہے۔۔۔ ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں: تمہیں کوئی نہیں پال رہا بلکہ تمہارا پروردگار پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں۔ بندے کی اللہ کی طرف نظر ہوتا توہ آدمی حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے؟ اس کو تو پتہ ہی ہو گا کہ جب میرے اللہ نے مجھے دینا ہے توہ حلال طریقے سے دے گا۔ اس لیے وہ دھوکہ نہیں دیگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ تمام گناہوں سے بچے گا۔ کیونکہ اس کے دل میں یہ ہو گا کہ میرا اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، وہ یقیناً مجھے رزق پہنچا کر رہے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ کے سامنے یہ بات کھوی۔

### دوسرے مجرزے کا مقصد:

دوسرा مجرزہ "ید بیضا" کا دیا، اس میں بھی ایک علمی نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ﷺ سے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ! نکالا توہ بہت منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اس روشن ہونے میں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اے میرے پیارے موسیٰ! کبھی ہم شکلوں کو بدلتے ہیں، جیسے عصا کی شکل کو ہم نے سانپ کی شکل میں بدل دیا، پھر سانپ کی شکل کو ہم نے عصا کی شکل میں بدل دیا۔ اور جب چاہتے ہیں ہم چیزوں کی خاصیت بھی بدل کر کھو دیتے ہیں۔ یہ تمہارا ہاتھ تھا اس کو منور ہونے سے کیا کام؟ لیکن ہمارے حکم پر جب آپ نے ہاتھ بغل میں ڈالا اور نکالا تو منور کر دیا۔ اللہ نے دو باتیں دکھاویں۔

### رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے:

تو مومن کا اللہ کے ساتھ ایمان پکا ہو، کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اچھا! جس کو اللہ سے ملنے کا پکا یقین ہو گا، کیا وہ جائے گا قبروں پر مانگنے کے لئے؟

وَهُجَاءَ لَهُ مَازَارُوْلَ پَمَانِگَنَّهُ کَلَّهُ ؟ وَهُتَوِيْذُ دَالُوْلَ کَلَّهُ پَھَرَهُ ؟  
او جی ! الگتا ہے میرا رزق کسی نے باندھ دیا کیسا کفریہ کلمہ ہے ! ایسے لگتا ہے کہ یہ  
لوگ چھوٹے چھوٹے خدا بنے پھر رہے ہیں، عامل نے ہمارا رزق باندھ لیا۔ عامل کی  
کیا اوقات ؟ کیا پدی کیا پدی کا شور بہ ؟ یہ عامل کیا لگے اور بندے کا رزق باندھنا کیا  
لگے ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾

[تمہارا رزق آسمانوں میں ہے]

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ ﴾

[جو بھی چیز ہے ہمارے پاس خزانے ہیں]

﴿ وَمَا نَنْزَلَهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ﴾

[ہم ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں]

تو رزق تو اللہ اتارتے ہیں، فرماتے ہیں :

﴿ لَحْنُ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ ﴾

[ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا]

اور ہم کیا سمجھتے ہیں ؟ او جی ! الگتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا، کاروبار باندھ دیا۔  
یہ بالکل شرک کے قریب کی بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہئے۔ نہ کوئی باندھ  
سکتا ہے اور نہ کوئی کھول سکتا ہے، یہ اختیار فقط میرے پروردگار کے پاس ہے۔ تو عام  
لوگوں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے ؟ ایمان خراب ہوتا ہے۔ تفویذوں کے  
پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے ؟ اعمال پر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں  
نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ میں بعض دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو دشمنوں نے  
پریشان نہیں کیا، آپ کو آپ کے اپنے شریف نفس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ادھر دھیان

نہیں آتا کہ ہمیں ہمارے خبیث نفس نے پریشان کیا ہے۔

### امید فقط اللہ سے:

تو آمنت باللہ جو ہم نے کہا، تو ہم نے ساری امیدیں التدریب العزت کے ساتھ لگادیں۔ جو ہمیں ملے گا، کس سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اب سوچئے!

آج امیدیں کہاں گئی ہوئی ہیں؟

— بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی  
مجھے بتاؤ سکی اور کافری کیا ہے؟

توجب ہم نے کہا: آمنت باللہ تو گویا ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا کہ اے مالک! آج کے بعد ہم تمام اعمال کا فاعلِ حقیقی آپ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ فَعَالْ لِمَا يُرِيدُ آپ کی شان ہے، جو ہورہا ہے آپ کی مرضی سے ہورہا ہے، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔

### بچے کی مثال:

ہم سے تو بچہ ہی زیادہ اچھا ہے۔ بچے کو ہم نے دیکھا کہ ماں کی دفعہ تھڑکی دیتی ہے تو پھر بھی ماں کے پیچھے پیچھے۔ کہتی ہے: میں بڑی مصروف ہوں مجھے کام کرنے دو! تھک نہ کرو، پھر بھی ماں کے پیچھے۔ اور کئی دفعہ تھڑکا دیتی ہے، پھر بھی ماں کے پیچھے۔ ہم نے دیکھا کہ بچہ تھڑکا کر بھی ماں ہی کے سینے سے لپٹتا ہے۔ کاش! ہم دنیا میں اس تمسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تو ہم بھی اپنے پروردگار کے قدموں میں سر رکھ دیتے، ہم بھی اللہ کے در پر آ جاتے۔ مولا! آپ کے در کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ ہم سے تو نمازیں ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ کئی نمازوں کے لئے مسجد میں نہیں آتے۔ او جی!

کاروبار کے کچھ حالات صحیح نہیں، صحیح ہوں گے تو میں آؤں گا۔ واہ! کاروبار صحیح نہیں جو دروازہ سب سے پہلے چھٹا وہ خدا کا دروازہ تھا۔ اپنے گھر کا دروازہ تو نہیں چھوڑا، وہاں تو روز جاتا ہے، سرال کے دروازے کو بھی نہیں چھوڑا۔ چھوڑا تو کس دروازے کو؟ خدا کے دروازے کو چھوڑا۔

### ماں گنا غیر سے شکوے اللہ سے:

بندے کی بھی عجیب بات ہے۔ ماں نئے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں کے سامنے اور جب بندوں سے کچھ نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے کہ کام نہیں ہوا۔ بھی! اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے پھر دیکھتے۔ اگر ہم اسباب پر ایک چھٹا نک مخت کریں، ہمیں اللہ سے منوانے کے لئے ایک من مخت کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے یہ دنیا کے جغرافیے دن میں نہیں بدلتے یہ راتوں کو بدلا کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تا! پھر اللہ تعالیٰ جغرافیے بدلا کرتے ہیں، مقدروں کے فیصلے اللہ کر دیتے ہیں۔

### فرشتوں پر ایمان کا مطلب:

پھر اس کے بعد ہم نے کہا و ملنکھہ (اس کے ملائکہ پر ایمان لائے)۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ یقین تھا کہ مومن کے ساتھ دنیا کا ظاہری نظام ہو یا نہ ہو لیکن یہ ایمان اور اعمال پر پکا ہوگا تو اللہ کا غیری نظام ضرور اسکی پشت پناہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو! اگر تم مد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے محظوظ کا مولیٰ ہے اپنے محظوظ کا اور جرئتیں جسم بھی ان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کے لئے فرشتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ یقین ہو کہ میں اپنی شریعت کی بات پر استقامت کے ساتھ ڈنار ہوں گا تو ظاہری نظام موافق ہو یا مخالف ہو، اللہ کا غیری نظام

ضرور میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو فتح فرمائی وہ اسی غیبی نظام کے ذریعے فرمائی۔

﴿لَقَدْ نَصَرْتُكُمُ اللَّهُ بِيَدِِرِ وَ أَنْتُمْ أَذْلَةٌ﴾

و یکجا فرشتے اترتے ہیں پھر  
— فناۓ بدرا پیدا کر! فرشتے تیری نصرت کو  
اٹ رکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی  
اب بھی فرشتے اٹ رکتے ہیں اگر ہم ایمان لانے کے بعد نیک اعمال پر جم  
جائیں۔

### کتابوں پر ایمان کا مطلب:

پھر فرمایا: وَ كُنْهِيْه اور کتابوں پر ایمان لے آئے اس کا کیا مطلب؟ کہ اے اللہ!  
ہمیں علومِ الہیہ کے اوپر بھی یقین ہے۔ یعنی جو آپ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ کرو اس  
میں کامیابی اور جو کہانہ کرو اس میں ناکامی۔ گویا ہمیں احکامِ خداوندی پر ایسا یقین  
آجائے۔

### رسولوں پر ایمان کا مطلب:

پھر فرمایا وَ رُسُلِه اور اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ کیا مطلب؟ کہ یقین دل میں  
آجائے کہ اگر ہم نبی ﷺ کی سنت کی اتباع کریں گے تو زندگی کامیاب ہوگی اور اگر  
اس کی مخالفت کریں گے تو زندگی ناکام ہوگی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

[جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی  
اطاعت کی]

تو نبی ﷺ کی سنت کی عظمت دل میں آجائے کہ ان اعمال کو اپنانے سے ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی۔

### روزِ آخرت پر ایمان:

والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں آخرت کے دن پر یقین ہو کہ نیک اعمال سے قیامت کے دن عزت ملے گی اور بردے اعمال سے قیامت کے دن ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَوْمَ لَا يُنْعِزُ الَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آتَوْا مَقْدَةً﴾

[قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اور جوان کے ساتھ ایمان لائے،  
رسوانیں ہونے دے گا]

تو اگر یقین پکا ہو گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت نہیں دے گا۔ ہم لوگ تو دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہوی کو اگر خاوندوں بندوں کے سامنے ڈانت دے، ایک کے سامنے ڈانت دے، ورن رو تے گزر جاتا ہے۔ او جی! لوگوں کے سامنے اس نے ڈانٹا۔ تو بھی! قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے معاملہ کھلے گا پھر کیا بنے گا؟ اسی لئے کہنے والے نے کہا:

تو غنی از هر دو عالم من فقیر  
روز محشر عذر ہائے من پذیر  
گر تو می بینی حساب نہ گرے  
از لگاه مصطفیٰ پہاں بکیر

اے اللہ! تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ قیامت کے دن اللہ امیرے عذر دوں کو قبول کر لیجئے گا۔ اللہ! اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لینا لازمی، ضروری ہے تو اللہ! مصطفیٰ کریم ﷺ سے میرا حساب او جمل کر کے لے لینا۔ مجھے ان کے

سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ قیمت کے دن عزت اور ذلت کیسے مت ہے؟ اس کا یقین آجائے۔

### قضاء و قدر پر یقین کا مطلب:

اور پھر فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (قضاء اور قدر پر بندے کا یقین) کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ اے بندے! اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے بھی آزمائش بن کے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ لہذا اچھے حالات آئیں تو اترائے نہیں اور برے حالات آئیں تو گھبراۓ نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو۔

### موت کے بعد کھڑے ہونے کا یقین:

پھر فرمایا وَالْبَعْثُ بَعْدُ الْمَوْتِ (اور موت کے بعد قیامت کے دن کھڑے ہونے پر بندے کو یقین) جب قیامت کے دن کے بعد کی زندگی پر یقین ہو گا تو بندہ پھر اگلے جہان کے لئے بھی تیاری کرے گا، موت کے لئے بھی تیاری کرے گا اور اگر یہ یقین ہو کہ یہی دنیا کا گھر ہے تو سارا دون اسی میں لگا رہے گا اور اگر آخرت کے گھر کی بھی فکر ہو گی تو انسان اعمال میں لگے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمادیں۔

### آج ایمان بنانے کی ضرورت ہے:

چنانچہ یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ان تمام اعمال کا یقین بندے کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس پر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے ایمان پر رحمت کی فرمایا:

تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن

[نبی مسیح ایضاً نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا پھر انہوں نے قرآن سکھایا]

تو چونکہ ایمان بن چکا تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت میں عطا فرمادیں۔

### ایمان والے کا حکم کردہ ارض پر چلتا ہے:

جب اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا ہو، یقین کامل ہو تو یہ مومن خلیفہ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا عمر رض خلیفہ وقت تھے۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ زمین پر ان کا حکم چلتا تھا۔ دیکھیں! اللہ کی مخلوق چار چیزوں سے بنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ چاروں پر ان کا حکم لا گو ہوتا تھا۔

☆. چنانچہ ایک مرتبہ زمین پر زلزلہ آیا، عمر رض نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا: کہ اے زمین! تو کیوں ہتھی ہے کیا عمر رض نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ان کی یہ بات سن کر زمین کا زلزلہ رک گیا، زمین پر حکم چل رہا ہے۔

☆ پھر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں: یا ساریہ الجبل ہوا ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیتی ہے، ہوا پر حکم چل رہا ہے۔

☆ دریائے نیل کا پانی نہیں چلتا، دریائے نیل کو رفع لکھتے ہیں، دریائے نیل! اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اور اگر اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المؤمنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل! دریائے نیل چنان شروع کر دیتا ہے، آج تک دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رض کی عظمتوں کے پھریرے لہر ارہا ہے۔

☆ مدینہ طیبہ کی ایک طرف سے آگ نکلتی ہے، جس کو ”ہرہ شرقیہ“ کہتے ہیں اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمر رض و حمیۃ کلبی رض کو فرماتے ہیں کہ جائیں اور اس آگ کو واپس دھکلیں۔ حمیۃ کلبی رض نے دور کعت نفل پڑھے اور آگ کے پاس جا کر چادر کو چاک کی طرح استعمال کیا، جیسے انسان کسی حیوان کو واپس اپنی جگہ دھکلیتا ہے، وہ چادر کے ذریعے آگ کو چاک کرتے گئے اور آگ کو واپس دھکلیتے گئے حتیٰ کہ جہاں

سے آگ نکلی تھی وہیں پہاپس چلی گئی۔

تو دیکھیئے! ایمان کے بنانے کی وجہ سے ہوا پر حکم چلتا ہے، پانی پر حکم چلتا ہے، زمین پر حکم چلتا ہے، آگ پر حکم چلتا ہے۔ صحیح شہنشاہی تو یہی ہے۔ اسی لئے کہنے والے نے کہا:

— ہم فقیروں سے دوستی کر لو  
مُر سکھائیں گے بادشاہی کا

بندہ جب اللہ کے در پر جھلتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ فقیری میں اس کو شاہی کارنگ عطا فرمادیتے ہیں۔

☆۔ چنانچہ صحابہ میں سے سعد ابن و قاص اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے، آگے دشمن کی فوج ہے اور درمیان میں دریا۔ اللہ کی شان، انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیئے اور گھوڑے چلتے چلتے بالآخر دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیر! اور آگے جا کر انہوں نے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں؟ ایک صحابی نے کہا کہ میرا لکڑی کا پیالہ تھا، وہ دریا میں گر گیا ہے۔ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ لکڑی کا پیالہ واپس کر! ایک پانی کی لہر آتی ہے اور لکڑی کے اس پیالے کو بھی کنارے پر ڈال جاتی ہے۔

— لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیر توڑ دیتا تھا  
حکم دیتا تھا دریا کو، رستہ چھوڑ دیتا تھا  
تو ایمان بنانے پر اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں بھی ایسی کامیابی عطا فرمادیتے ہیں۔

امت محمدیہ کی فضیلت دوسری امام پر:

یہاں پر طلباء کے لئے کچھ علمی نکات ملاحظہ ہوں

☆.. ایک بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا تھا اور ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریا عبور کیا تھا، دونوں میں فرق دیکھ لجھتے۔ دل کے کانوں سے سینے اتجہ کے ساتھ۔ جب حضرت موسیٰ میرزا دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پہنچے فرعون اپنے لا و لکر کے ساتھ آیا۔

﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا مُذْكُونٌ﴾

[کہا موسیٰ میرزا نے کہ اب ہم پکڑ لئے گئے]

اب ہم دھر لئے گئے۔ اس وقت ایک یقین بھری آواز اٹھی، سیدنا موسیٰ میرزا نے کیا فرمایا

﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ شَهِيدِيْنَ﴾

[میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، ضرور راستے کی رہنمائی فرمائے گا]  
میراللہ میرے ساتھ ہے، تو دیکھیں سیدنا موسیٰ میرزا نے معیٰ کا لفظ استعمال کیا  
”میرا رب میرے ساتھ ہے“ تو معلوم ہوا کہ نبی میرزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت تھی  
۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دریا میں راستے بنادیئے، بارہ راستوں سے بارہ قبلے  
راستے پار کر گئے۔

ادھر ذرا ممت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام دیکھئے۔ نبی ملئیلہ  
بھرت کے وقت غارثور میں پہنچے۔ صدیق اکبر گھبرا رہے ہیں کہ کافرنہ آجائیں،  
کہیں نبی ملئیلہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ماں کو جس طرح بچے سے محبت زیادہ ہو تو اس کے  
لئے پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صدیق اکبر گھبرا کو نبی ملئیلہ سے محبت زیادہ تھی تو  
اس کے لئے پریشانی بھی زیادہ تھی۔ تو جب نبی میرزا نے دیکھا کہ صدیق اکبر گھبرا  
پریشان ہیں تو قرآن کی آیتوں میں کیا کہا گیا؟  
لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [آپ گھبرا یئے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے]

صدیق اکبر ﷺ کو بھی معیت میں ساتھ شامل فرمادیا۔ یہ معیت کبریٰ فقط نبی ﷺ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی امت کے صدیقین کے ساتھ بھی ہے۔ معنا کا لفظ استعمال کیا، یہ ایک بات ہوئی۔

☆ ... دوسری بات دیکھئے! حضرت یوسف ﷺ نے خواب دیکھا، اپنے والد کو سنایا کہ میں نے گیارہ ستارے دیکھے۔

(﴿أَحَدَ عَشْرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجَدِين﴾)

[میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں]

یعقوب ﷺ نے خواب کی تعبیر سمجھی اور اپنے بیٹے کو یہ بات کہی  
سَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ (اس طرح آپ کا رب آپ کو قبول کرے گا)  
یہ مستقبل کا صیغہ۔ ہاں! آپ کا پروردگار آپ کو قبول کرے گا۔ تو دیکھئے کہنے  
والے بھی اللہ کے نبی ہیں اور جن کے بارے میں کہا وہ بھی ہونے والے نبی مگر صیغہ  
مضارع کا استعمال کیا گیا، یاجتبیک ربک تیرا پروردگار تجھے اپنے لئے خاص کرے  
گا۔ لیکن جب اس امت کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے حاضر کا صیغہ بھی استعمال  
نہیں کیا فرمایا:

ہوا جتبیکم (وہ پروردگار جس نے تمہیں اپنے سے خاص کیا)  
ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اللہ تمہیں چن چکا اپنے لئے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان اللہ  
نے عطا فرمائی۔

**هُوَ الْجَنِّبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ لِيَ الَّذِينَ مِنْ خَرَجَ (حج: ۷۸)**

اللہ اکبر! یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔

☆... پھر آگے نبی ﷺ کے صحابہ بھی دریا میں چلے اور سیدنا موسیٰ ﷺ کے صحابہ بھی  
دریا میں چلے۔ ذرا فرق دیکھئے گا، توجہ فرمائیے کہ وہاں موسیٰ ﷺ کی قوم کے ساتھ

وقت کے نبی ہیں، ان کی معیت میں وہ دریا پار کر رہے ہیں۔ اور یہاں دریا پار کرتے ہوئے نبی پاک ﷺ خود موجود نہیں ہیں، فقط صحابہؓ ہیں۔ ذرا فرق دیکھئے! وہ وقت کے نبی کی معیت میں چل کر جاتے ہیں، دریا اتر جاتا ہے۔ یہاں نبی ﷺ نہیں، فقط صحابہؓ ہیں۔ ذرا غور کیجئے صحابہ صرف دریا عبور نہیں کرتے، اپنے ساتھ گھوڑوں کو بھی لے کر جاتے ہیں

☆ اور فرق دیکھئے! سیدنا موسیٰ علیہم کو ان کی روحانی طاقت کو ہ طور پر لے گئی۔

### فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب موسیٰ علیہم آئے کوہ طور پر، تو وہاں ان کے آنے کا تذکرہ کیا اور نبی ﷺ کا معاملہ آیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (الاسراء: 1)


[پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے لے کر مسجدِ اقصیٰ تک پہنچا دیا]

وہاں آئے، یہاں بلائے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا! بعض لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کو خطاب دے دیا جاتا ہے بھی! آپ ہمارے گھر ملنے کے لئے آ جانا۔ اور کبھی کوئی بچپن کا محبوب کلاس فیلوبول جائے، بندہ ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے: گھر چلو یار! آج مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور آنے کا راستہ بتا دیا، اوہ راس کو ہاتھ پکڑ کر خود اپنے گھر پہنچا دیا۔ تو نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جریل علیہم کو بھیج کر اپنے پاس بلوالیا۔

☆ اسی لئے موسیٰ علیہم نے دعا کی:

### ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾

[اے اللہ! میرے سینے کو کھول دے]



اور جب نبی ﷺ کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا:

﴿الَّمْ نَسْرَخَ لَكَ صَدْرَكَ﴾

[کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟]

☆ پھر زراد یکھنے کے ادھر ہارون علیہم کو موئی حجوم چھوڑ کر گئے کہ میرے بعد قوم کا خیال رکھن۔ اب قوم نے بات نہ مانی تو ہارون خوف کھانے لگے کہ کہیں بٹ نہ جائیں اور مجھے الزام نہ دیا جائے۔ حضرت موئی حجوم آئے تو انہوں نے آکر سختی کی تو ہارون علیہم کو کہنا پڑا:

﴿يَا بْنَ أُمٍّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لَا بِرَأْسِي﴾

[اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میرے دارمی اور سر کے بال]

تو یہ کہنا پڑا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں نبی ﷺ کو وزیر عطا کئے دنیا میں صدقیق اکبرؑ ان کے دین پر استقامت کا یہ معاملہ تھا، جب اسامہؓ کا جیش بھیجنے کا معاملہ تھا، تو ہر قلی روم دو لاکھ فوج کو لے کر آیا ہوا تھا، حملہ کرنا چاہتا تھا، نبی ﷺ نے اس کو بھیج تو دیا مگر طبیعت نا ساز تھی، تو ان کی اہمیت نے انکو پیغام بھیجا، جانے میں جلدی نہ کرتا، انتظار کر لیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پردہ فرمایا۔ لشکر قریب تھا، وہ بھی اس میں شریک ہو گیا۔ اب لشکر بھیجنے کا فیصلہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ چونکہ مدینہ پر حملہ کے لئے کافر دو لاکھ فوج لے کر آ رہا تھا تو صحابہؓ بڑے تذبذب میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یا تو لشکر کو ابھی نہ بھیجنیں اور بھیجنیں تو پھر کسی بزرگ تجربہ کا رہنما کر بھیجنیں۔ اسامہؓ تو چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صدقیق اکبرؑ کو مشورہ دیا۔ عمرؓ آئے اور آکر کہنے لگے: ابو بکرؓ! اگر آپ نے لشکر کو بھیج دیا تو مجھے ڈر رہے کہ کہیں مدینہ کی عورتوں کو آنے والے دشمن لے نہ جائیں۔ صدقیق اکبرؓ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا:

الجبار فی العجاهلیة اخوار فی الاسلام  
 جہالت میں اتنے جبار تھے اسلام میں آکر تم اتنے کمزور ہو گئے!  
 اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا:

”یہ کیسے ممکن ہے کہ دین میں نقص آجائے اور ابو بکر رض زندہ رہے!“

فرمایا: عمر رض! اکیلے بھی جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کر دکھاؤں گا۔ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے پکائیں ہو کہ مدینہ کی عورتوں کو جنگل سے جانور آ کر نوج لیں گے، لاشیں گھیٹیں گے، میں اس کو بھی قبول کرلوں گا مگر میں اس لشکر کو اللہ کے راستے میں ضرور بھیجوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر رض کی استقامت پر حیران رہ گئے کہ جیسے ایک نبی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ کے حکم کو لاگو کر لیتا ہے۔ صدیق اکبر رض نے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔

☆..... جب موئی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنی قوم کے ساتھ ملک میں داخل ہو جائیے فتح ہو گی۔ تو نبی اسرائیل والے سارے کے سارے گھبرا کر بیٹھے گئے کہنے لگئے:

﴿فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ لَفَقَا إِلَّا إِنَّا هُنَّا قَاعِدُونَ﴾ (ماندہ: ۲۳)

[آپ جائیں اور آپ کا پروردگار، ان سے قتال کر لیں، ہم تو یہاں بیٹھے

ہیں]

لیکن جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کا معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے میدان بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ سامنے لو ہے سے لدی ہوئی فوج ہے، بتاؤ! کیا کریں؟ سعد رض اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں: اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام! اگر آپ حکم دیں کہ دریا میں چھلانگ لگادو تو ہم آپ کے غلام ہیں سمندر میں چھلانگ لگادیں گے۔ ہم نبی اسرائیل کی طرح نہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کو کہہ

رب ہے تھے کہ آپ جائیں اور آپ کے رب جائیں قتال کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ساتھ چھوڑنے والے نہیں، ہم تو جانیں لٹانیں والے ہیں۔ دیکھیں! اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مسیح امیر کو کیا ایمان اور استقامت والی جماعت عطا فرمائی تھی، استقامت والی جماعت عطا فرمائی تھی۔ جیسے شاگرد کے کمالات سے استاد پہچانا جاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمالات سے نبی مسیح امیر کی شان سامنے آتی ہے۔

### اپنی ذات پر محنت کی ضرورت ہے:

تو ہمیں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اعمال کو اپنا میں گے۔ تو آج کی جو مجلس ہے اس کا محور، بیجوڑا اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان ہم لے چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اب نیک اعمال رو گئے ہیں، اس میں ہم محنت کریں اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کریں۔ جیسے کوئی بندہ کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، ہم نیک اعمال کو اسی طرح ڈھونڈیں اور اپنا میں۔

### تمن با تمیں ..... لو ہے کی لکیر:

ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تمن با تمیں لو ہے کی لکیر ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ

سن لیجئے:

پہلی بات:

**مَنْ عَمِلَ لِآخِرَةٍ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ الدُّنْيَا**

[جو آدمی آخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے لئے کافی ہو جاتا ہے]

اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے ہیں تم اپنے لئے آخرت کے لئے تیاری کرو، اللہ

فرماتے ہیں میں پروردگار تمہارے دنیا کے کاموں کا محسن اور پروردگار نہماں ہوں۔

دوسری بات:

مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَةً أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَيْهَا

[جو اپنی خلوت کو درست کرتا ہے، اللہ اس کے ظاہر کو درست کرتے ہیں]  
یعنی جو آدمی اپنے خلوت کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کے معاملات کو بھی درست فرمادیتے ہیں۔

تیسرا بات:

مَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَ الْأَيْدِيْنَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَ النَّاسِ

[جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو درست کرتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان تعلق کو درست رکھتا ہے]

جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ذات دیتے ہیں اور اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلق کو بھی اللہ اچھا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ محنت تو ہمیں اپنے اوپر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے باطن کو ثحیک کر لیں گے، اللہ ظاہر کو ثحیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو ثحیک کر لیں گے، اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان تعلق کو ثحیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی آخرت پر محنت کر لیں گے، اللہ ہمارے دنیا کے کام سنوار دیں گے۔ تو محنت کا میدان کون سا بنا؟ اپنی ذات بنی۔ اس لئے آج ہمای نگاہیں دوسروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتی ہیں، کاش! یہ آنکھیں بند ہو جاتیں، یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتیں کہ میرے اپنے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ گردن جھکانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، گردن کھڑی رہتی ہے، اس میں سریا ہوتا ہے۔ آنکھیں دوسروں کو دیکھتی ہیں، اپنے پر نظر نہیں پڑتی۔

## اللہ کے وعدوں کا یقین:

بہر حال لب باب یہ نکلا کہ چیزوں کے اندر تاثیر، یہ انسانی تجربہ ہے۔ اور اعمال کے اندر تاثیر، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ بھی! اپنے تجربے سے زیادہ خدا کے وعدے پر بھروسہ ہونا چاہئے۔ اگر ہم اپنے تجربے کے تحت بھلی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنے تجربے کے تحت زہر نہیں پیتے، دور رہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، تو پھر خدائی وعدہ تو یہ ہے، گناہ کر دیگرے تو عذاب پاؤ گے۔ ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہ جوانان کے گناہ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔

## لینے والا مزاج:

آج پوی دنیا میں آپ گھوم کر دیکھ لیں آج لوگوں کا لینے کا مزاج بننا ہوا ہے۔ ہر بندہ لینا چاہتا ہے، ہر کسی سے لینا چاہتا ہے۔ لینے کا مزاج، جھوٹ لینے کے لئے دلیل، سود لینے کی دلیل، دھوکہ۔ لینے کی دلیل، خیانت... لینے کی دلیل، غبن لینے کی دلیل، چوری۔ لینے کی دلیل، ذکیقیت لینے کی دلیل، ناپ تول میں کی بیشی۔ لینے کی ذلیل۔ تو یوں لگتا ہے کہ عمومی مزاج ہی لینے کا بن گیا ہے۔

## دینے والا مزاج:

اور شریعت کو دیکھو کہ وہ مومن کو کہتی ہے کہ تم دینے کا مزاج بناؤ۔ یا اللہ دینے کا مزاج! کہا: ہاں! تم مومن ہو، لینے کا مزاج نہیں رکھنا، دینے کا مزاج رکھنا ہے۔ کیسے دیں؟ فرمایا: زکوٰۃ دو اتمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ﴾

(معارج: ۲۵، ۲۷)

[اور جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے، سوالی اور غیر سوالی کے لیے]  
 زکوٰۃ دو! اچھا اللہ! زکوٰۃ دے دی۔ فرمایا بھیتی کرتے ہو، عشر ادا کرو! اچھا اللہ!  
 عشر بھی ادا کر دیا۔ فرمایا: اللہ کے راستے میں نفلی صدقات بھی دو! صدقہ بھی کرو!  
 اچھا اللہ! ہم نے یہ صدقہ بھی کر لیا۔ فرمایا: ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دو!  
 تھا دو تھابو! [تم ہدیہ کرو گے، محبتیں بڑھیں گی]

دینے کا مزاج دیکھو زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ دینا، ہدیہ دینا، ہبہ کرنا۔ اللہ!  
 آپ مومن کو کہتے ہیں دے دے، دے گا تو لے گا کہاں سے؟ فرمایا: میرے بندے!  
 بات کو سمجھو! میرے آگے ہاتھ کو پھیلاو! میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ تم ہاتھ  
 بڑھاؤ! تم لوگوں کو دو! تم لوگوں کی جھولیاں بھر دے گے، مجھ سے مانگو گے، میری مخلوق بن  
 جاؤ گے۔ لوگوں کو دو گے تو تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ عز توں والی زندگی  
 گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا: اللہ سے لے! اللہ کی مخلوق کو دے! اس لئے  
 شریعت نے دینے کا مزاج بنایا۔

تو ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو چن چن کر ختم کریں اور اللہ رب العزت سے  
 معافیاں مانگیں۔ جو گناہ ہم کر چکے، اے اللہ! آپ ان کو معاف کرو یعنی، ہمارے  
 گناہوں کو بخش دیجئے۔

### سچی توبہ کا اعجاز:

- چنانچہ ہر انسان کے گناہوں پر قیامت کے دن چار گواہیاں ہوں گی۔
- ایک گواہی ہو گی فرشتوں کی، کراما کا تین کی گواہی۔
- دوسرے گواہ ہوں گے انسان کے اعضاء۔
- تیسرا گواہ ہو گی زمین۔

يَوْمَنِذِي تَحْدِيثُ أخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْخَى لَهَا  
چوتحی گواہی انسان کا نامہ اعمال

لیکن جب بندہ بھی توبہ کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے:

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللَّهُ حَفْظَةً ذُنُوبَهُ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ  
وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ

[جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں اور زمین کے نکروں کو بھی بھلا دیتے ہیں]

حَتَّىٰ يَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدًا مِنَ اللَّهِ بِذَنْبِ

[وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا]

## علمی نکات:

. یہاں پر طلباء کے لئے ایک دو علمی نکتے:

دنیا کی عدالت میں اگر کسی پر جھوٹا مقدمہ کر دیا جائے اور کیس کی پیروی سے پتہ چل جائے کہ مقدمہ جھوٹا تھا تو عدالت کہے گی ہم نے باعزت بری کر دیا۔ آپ کہیں جناب ریکارڈ ختم کریں! وہ کہیں گے کہ ریکارڈ تو ختم نہیں کر سکتے، یہ تو رکھیں گے، ساری عمر ریکارڈ رہے گا کہ مقدمہ ہوا تھا۔ حالانکہ جھوٹا تھا مگر عدالت ریکارڈ ختم کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو! ایک بندہ مجرم تھا، گناہ کیا تھا، رحم کی اپیل کر دی میرے اللہ! میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری توبہ قبول کر لجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پروردگار ہوں، فقط باعزت بری ہی نہیں کرتا، میں اس کا ریکارڈ بھی نامہ اعمال سے ختم کر دیتا ہوں۔

اب یہ نامہ اعمال سے ختم کرنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ ذرا توجہ سے سنئے،

پہلی بات، اگر نامہ اعمال میں گناہ ہوتے مگر لکیر پھیر دی جاتی تو قیامت کے دن  
ہر موسم اپنا نامہ اعمال دوسروں کو پڑھوائے گا، کہے گا: میرے نامہ اعمال کو دیکھو،  
﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِسَمِينَهُ فَيَقُولُ هَاءُمُ افْرَءُ وَاكِتَابِيَهُ ۝  
ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ۝﴾ (الحاقة: ۱۹-۲۱)

[و دیکھو میرے نامہ اعمال کو، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ضرور ملے گا]

تو نامہ اعمال اس نے اپنے قربی لوگوں کو دکھانا تھے، رب کریم نے فرمایا: اے  
میرے بندے! جو گناہ تو کر بیٹھا، اگر اس پر نشان بھی کانے کا لگا دیں، لکیر بھی لگا  
دیں، تب بھی اگر کوئی تیرا نامہ اعمال دیکھے گا، اسے پڑتے تو چلے گانا کہ میاں! کرتوت  
کچھ کے تھے مگر معاف کر دیا گیا۔ میرے بندے معافی مانگنے کے بعد یہ بھی تیری  
ذلت ہے، میں تجھے اس ذلت سے بھی بچ دیتا ہوں، میں سرے سے گنا ہوں  
کو تمہارے نامہ اعمال سے نکال دیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا گناہ کئے تھے یا نہیں۔

دوسری بات یہ کہ نامہ اعمال سے تو گناہ ختم کر دیے مگر فرمادی ہے ہیں: انسی  
الله حفظہ ”اللہ بحلوا دیتا ہے“ گویا گناہ اللہ مٹاتے ہیں، اللہ بحلوا تے ہیں، بھی یہ  
کام تو فرشتوں سے بھی کرو سکتے تھے۔ دنیا کے حاکموں نے کام کروانا ہو تو ٹکر کوں  
سے کرواتے ہیں، بھی یہ کام کرو! یہاں رب کریم فرشتوں سے نہیں فرمادی ہے کہ یہ کام  
کرو! فرماتے ہیں: ہم مٹاتے ہیں، ہم بھلا تے ہیں۔ ہم تمہارے عملوں کو معاف  
کرنے اور بھلانے کا عمل اسلئے کر رہے ہیں کہ اگر فرشتوں سے یہ کام لیتے، کل  
تمہارے نامہ اعمال کو دیکھ کر فرشتے یہ جانتے ہوتے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم نے  
اُن کے کرتوتوں کو مٹایا ہوا ہے۔ تمہیں فرشتوں کا احسان مند ہونا پڑتا، یا فرشتوں کا  
طعنہ سننا پڑتا، تم نے میرے ساتھ دوستی کر لی، نہ تمہیں فرشتوں کا طعنہ سننا پڑے گا نہ  
تمہیں احسان مند ہونا پڑے گا۔ میں پروردگار تمہارے گنا ہوں کو خود مٹاتا ہوں۔ اتنا

کریم آقا۔ اللہ اکبر بکیرا!

### توبہ کے لیے جامع دعا:

اس لئے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرے تو الت درب العزت سے دعا مانگے کہ

﴿ وَاغْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا ﴾

وَاغْفُ عَنَا، اے اللہ! ہمارے گناہوں کے آثار مٹا دیجئے، ہمارے قبیع اعمال کو ڈھانپ دیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن، ہماری رسائی نہ ہو۔

وَاغْفِرْ لَنَا اور اپنے اعمال کو لوگوں پر ظاہر کر دیجئے، تو واعف عننا سے گناہ مٹا دیجئے اور واغفر لنا سے نیک اعمال کو لوگوں پر ظاہر بھی فرمادیجئے۔

اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی! فرمایا: کہو! وَارْحَمْنَا اللہ ہم پر حم بھی فرمادیجئے۔ یہ وار حمنا کیوں لے کر آئے؟ اس لئے کہ بیٹھے سے اگر باپ نا راض ہو، خرچہ پانی بھی بند کیا ہو، بولنا بھی چھوڑا ہو اور بیٹھا آکر ابو کے پاؤں کپڑے لے تو باپ اس سے راضی ہو کر معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کے خرچے بھی جاری کر دیتا ہے، بلکہ جیب خرچ بڑھادیتا ہے کہ تم نے معافی مانگ لی۔

تو یا اللہ! گناہ کئے تھے، آپ کی رحمتیں نازل ہونا بند ہو گئی تھیں، اب تو ہم نے معافی مانگ لی، یا اللہ! ابا کو منا لیں جیب خرچ شروع ہو جاتا ہے، اب تو ہم نے ربا کو منالیا، اب آپ بھی ہمارا جیب خرچ شروع کر دیجئے، کون سا جیب خرچ؟ وار حمنا والا جیب خرچ۔

### چار انعامات:

مفسرین نے لکھا کہ وار حمنا کے تحت بندے کو چار انعام ملتے ہیں:

### پہلا انعام:

پہلا انعام توفیقِ عبادت، جو گناہوں کی وجہ سے چھن گئی تھی۔ اللہ رب العزت تو بے کے بعد عبادت کی توفیق دوبارہ عطا فرمادیتے ہیں۔ گناہوں کے سبب عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، نماز پڑھنی مشکل، تلاوت مشکل، تہجد مشکل۔ وہ جو توفیق چھن گئی تھی، فرمایا: اب تم نے صلح کر لی، میرے دوست بن گئے، لہذا اب ہم تمہیں پھر توفیقِ عبادت دے دیتے ہیں۔

### دوسرा انعام:

فرمایا کہ گناہوں کے سبب تمہیں رزق میں بے سکونی تھی، معيشہ ضنكہ۔ اب ہم سکون والی روزی دے دیتے ہیں، فراخ روزی دے دیتے ہیں، پر سکون روزی لو اور اس سے نیک اعمال کرو، اللہ کے راستے میں جاؤ اور اس سے خوب میرے گھر کا دیدار کرو۔ اس لئے کہ اب تمہیں خرچ مل گیا۔ خرچہ ملنے کے بعد اب تم حج عمرے کرو، نمازیں پڑھو، میرے محبوب کے در پر حاضری دو۔ تم کہتے تھے ناکہ

شے رو ضے تا چے زے

مدینے تا چے زے

[گند خضراء کی طرف جب آپ جائیں، مدینہ کی طرف جب آپ جائیں]

اللہ اپنے محبوب کا گھر دکھادیں، مگر گھر کیا دیکھنا؟ اب میں دے دیتا ہوں، کرو ذرا میرے گھر کا سفر! آؤ میرے گھر! یا اللہ! آپ کتنے کریم ہیں! بندے پر اتنی مہربانی فرماتے ہیں۔

### تیسرا انعام:

تیسرا انعام میں یہ دوں گا کہ بے حساب تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمادوں

گا، بے حساب جنت میں داخلہ۔ یا اللہ! یہ بے حساب کیسے ہو گی؟ س بات کو آ۔۔۔  
 ہم نے ایک مرتبہ حج کے سفر میں ایرپورٹ پر دیکھا۔ جو وہاں کشم وائے دے تیں  
 وہ ہر سامان کو چیک کر کے چاک کا نشان لگاتے ہیں، جب ہم گئے تو ان کو ہماری  
 مسکین صورت پر رحم آگیا۔ ٹرالی کے اوپر سامان تھا، انہوں نے کشم کا نشان لگادیا۔  
 کہتا ہے: جاؤ بھی! یا اللہ! جنت میں بے حسابے ایسے ہی جائیں گے نا؟ اگر دنیا  
 والے چاک کا نشان لگاویتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن نشان لگاویں گے،  
 جاؤ! بے حساب کتاب جنت میں۔

### چوتھا انعام:

فرمایا کہ دخول جنت تمہارے لئے آسان فرمادیں گے۔ دخول جنت کیسے  
 آسان؟ حدیث پاک میں بڑا عجیب مضمون آتا ہے! اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک  
 بندے کو بلا کمیں گے، اس کے گرد رحمت کا ایک پرده تان دیں گے اور پھر اس بندے  
 کے تمام زندگی کے بڑے بڑے گناہ گنوائیں گے۔ کذا او کذا تو نے یہ کیا اور یہ کیا؟  
 جی یا اللہ! کیا۔ یہ بھی کیا؟ یہ بھی کیا۔ یہ بھی کرتے تھے؟ جی، یہ بھی کرتے تھے؟ اتنے  
 گناہ گنوائیں گے کہ وہ بندہ دل میں سوچے گا کہ آج میں جہنم کی آگ سے بچ نہیں  
 سکتا۔ اللہ فرمائیں گے: اچھا! تو نے گناہ تو کئے مگر مجھ سے دعا میں مانگتا تھا، نیک بننے  
 کی کوشش بھی کرتا تھا، ہم نے تیری ان کوششوں کو قبول کر کے تیرے سارے گناہوں  
 کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر جو رحمت کا پرده ہے گا، ساری مخلوق دیکھے گی،  
 اس بندے کے نامہ، اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ لوگ سوچیں گے یہ انہیاء میں سے  
 کوئی نبی ہے یا صد یقین میں سے ہے، جس نے زندگی میں کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہی  
 نہیں کیا۔ اللہ ایسے بندے کو فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرا۔

تو وار حمنا کے تحت اللہ یہ سب نعمتیں دیں گے اور پھر آخر پر فرمایا:

اَنْتَ مَوْلَانَا اَنْتَ سَيِّدُنَا وَ مَالِكُنَا وَ مُتَوَلِّ الْاُمُورِ  
وَ يَكُونُوا اَنَّكُمْ آسَانِيَا بَنْدَے کے اوپر فرمائیں، کتنی  
رحمتیں فرمادیں!

### ماستر پیس کیسے ہوتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے اعمال سنواریں۔ ہم جب سنوار جائیں گے، اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائیں گے۔ جدھر سے گزر جائیں گے، لوگ شکلیں دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ نے ایک مرتبہ بنگال کا سفر کیا۔ سات لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، ستر لاکھ گناہگاروں نے ان کے باٹھ پر بیعت توبہ کی۔ جیسے کوئی کاریگر ماستر پیس بنادیتا ہے نا! لوگوں کو دکھاتا ہے لوگوں کو کیسا ہے؟ جو اللہ کا بن جاتا ہے۔ اللہ اس ماستر پیس کو ساری دنیا کے اندر پہنچا دیتا ہے، دنیا کے لوگوں کو دکھادیتا ہے کہ دیکھو! تم بھی تو آج کے دور میں ایسے بن سکتے ہو؟ پھر اللہ بندے کے لئے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر ہم دین کا کام کریں اور اپنی زندگیاں دین کے لئے خرچ کریں۔

یاد رکھنا! آج کے دور میں انسان دین پر زندگی گزارے، دین کی اشاعت کرے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اس لئے کہ آج کے دور میں دین یتیم ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا کہ جس طرح حبیبہ سعدیہ نے یتیم مکہ کو سینے سے لگایا تھا، اللہ نے اس کے گھر کو رحمتوں سے بھر دیا تھا، ہم اس دین کو سینے سے لگائیں گے، اللہ ہمارے گھروں اور مدارس کو رحمتوں سے بھر دیں گے۔ مخلوق کے دلوں میں ایسی محبتیں ڈال دیں گے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ ہماری قبروں سے لپٹ کر رویا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سنوارنے والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کے پاس اپنے گناہوں کی شرمندگی کا جو روتا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا مومن کی آنکھ سے جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو لکتا ہے، وہ اس کے لئے دنیا  
و ما فیہا سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایک پنجابی صوفی شاعر فرماتے ہیں:

جیہڑا لطف ہے روؤں اندر  
اوِ وج بیان نہ آوے  
رونا دل دی میل اتارے  
تلے روٹھڑے یار مناوے  
تے یادِ خدا وج روؤں والا  
کدے دوزخ وج نہ جاوے  
اللہ میں اپنی یاد میں رونے کی سعادت عطا فرمائے، قیامت کے دن کی ذلت  
سے محفوظ فرمائے۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين





رَمَّا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُرُّ وَ لَعْبٌ  
(عنکبوت: ۶۳)

## دنیا کی حقیقت

حضرت اقدس کا یہ بیان 21 اکتوبر 2002ء کو مدینہ مسجد جہنگ  
میں بعد نماز فجر، سالانہ نقشبندی اجتماع کی پہلی نشست میں ہوا  
جس میں حضرت دامت برکاتہم کے خلفاء، علماء اور پیغمبروں کی  
تعداد میں مریدین شریک تھے۔

## اقتباس

.... سکھیل تماشہ گھری دو گھری کی بات ہوتی ہے، دنیا  
کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ جب انسان جانے لگے گا تو اس  
وقت احساس ہو گا کہ میں دنیا میں رہا، مگر صبح کا تھوڑا وقت یا  
شام کا تھوڑا وقت۔ جسمی قیامت کے دن کہیں گے کہ ”ہم دنیا  
میں نہیں رہے مگر تھوڑی دیر“، ہم خود گزری ہوئی زندگی کا تصور  
کر کے دیکھیں، میں اپنی زندگی کے پچاس سال ایک خواب  
کی طرح سے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بچپن، کل کی بات

- ۶ -

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## دنیا کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَنِي أَمَا بَعْدًا  
أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعْبٌ (عنکبوت: ۲۷)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝  
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِأْ وَسَلِّمْ.

سفر آخرت کے مسافر۔

دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دارالبقاء ہے۔ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دارالسرور ہے۔ ہم سب کے سب یہاں مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں، صحت مند ہوں یا بیمار، مشغول ہوں یا فارغ ہوں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری و ساری ہے۔ ہر دن ہمیں منزل کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔

دنیا امتحان گاہ ہے:

اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے، یہاں ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ کسی کو پور دگار عالم نے رزق کھلادے کر آزمائش کی، کسی کی صحت کی کیفیت میں ہے۔ کسی کو کوئی بیماری کے حال میں آزمائش میں ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان، جو ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھے، نبی ﷺ کی مبارک سنتوں پر عمل کرے۔ اس دنیا میں التدریب العزت نے ایسے جاں اور پھند۔ ہنوا دیکے کہ انسان

الْجَهْرُ كِرْهَ جَاتَاهُ، بِرَبِّهِ بِرَبِّ عَقْلَنَدَوْنَ كُودَحُوكَ لَكْتَهُ هِيَنَ - كَهْنَهُ كُوا عَالِيٌّ تَعْلِيمَ يَا فَرَّةَ مَغْرِبَ نَهَارَ كَيْ فَرَصَتَهُنَّ، كَهْنَهُ كُوبَرَهُ ذَهَنَ هِيَنَ، لَيْكَنَ اللَّهُ كَمَهْرَ كَادَرَوَازَهَ يَا دَنَّهُنَ - اِيَّا عَقْلَنَدَانَ اَصْلَ مِيَسَ بَيْ قَوْفَهُ هِيَ اَسَ لَيْلَهُ رَبُّ الْعَزَّتِ نَهَيَ كَافِرُونَ كُوكَهَا -

**ذِلِّكَ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ**

[یہ لوگ وہ قوم ہیں جنہیں عقل ہی نہیں]

ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل کیا ہے؟ انسان وقتی لذتوں اور واداہ واد کے پیچے ایسا الجھ جاتا ہے کہ مقصود حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔

### دو قسم کے گناہ:

گناہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ گناہ باہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاہ مقام اور مرتبہ کو کہتے ہیں، مثلاً: انسان چاہے کہ مجھے بڑا عالم سمجھ جائے، بڑا پودھری اور سردار سمجھا جائے، ہر کام مجھ سے پوچھ کر کیا جائے، جو صفات مجھ میں ہیں وہ کسی میں نہیں۔ اور دوسرے گناہ، باہ معنی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان دونوں میں سے جو گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔

عمومی طور پر جو انسان باہ کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، اس کی ندامت کسی بھی وقت معافی کا سبب بن سکتی ہے لیکن جاہ کے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو راست پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خود پسندی، تکبر جیسے گناہوں کا انسان کے اندر سے نکلا بڑا مشکل ہے۔

### تکبر ایسی گناہ:

خود پسندی اور تکبر اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ نے

فرمایا۔

لا يدخل الجنة.....

جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو گا۔

ذرہ انگریزی میں ایٹم (Atom) کو کہتے ہیں اس لیے یہ ایسی گناہ ہے۔ ایسی ہتھیار جس قدر تباہی پھیلادیتے ہیں، تکبر زندگی میں تباہی پھیلادیتا ہے، یہ بندے کے اندر سے بڑی دیر کے بعد نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں ایک بات یہ بتائی کہ بندے کا اپنے اور عجب کرنا۔ نیکی کے ساتھ خود پسندی، عجب اور تکبر چلتا رہتا ہے۔ آدمی ایک طرف پہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، ذکر و شغل کی زندگی بھی گزارتا ہے، مگر دوسری طرف اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا۔ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آسان ہے، اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں گرا دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رض یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

”اے اللہ! مجھے میری نظر میں چھوٹا ہنا دیجئے اور دوسری کی نظر میں بڑا ہنا

دیجئے“

آج کل جسے چند سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی وہ اپنی نیکیوں پر اتراتا پھرتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد خود پسندی کے بت کو توڑنا، اپنے آپ کو منانا ہے۔

**نفس کو مارنے کا مطلب:**

نفس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ چیز ہے جس کا گلا گھونٹا جائے گا بلکہ اپنے اندر کی خواہشات کو قابو میں لے آنا۔ جب نفس کو من پسند تمناؤں اور

خواہش سے روک لیں گے تو انسان کا دل خود بخود دنیا سے مختندا ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا تعلق زیادہ ہو جائے گا۔

دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشہ ہے:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا هِدَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ لَعْبٌ﴾ (عنکبوت: ۶۳)

[اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، مگر کھیل تماشہ]

دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور کھیل تماشے کے درمیان بہت مشابہت ہے، مثلاً:

☆... کھیل تماشہ گھری دو گھری کی بات ہوتی ہے، دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ جب انسان جانے لگے گا تو اس وقت احساس ہو گا کہ میں دنیا میں رہا، مگر صبح کا تھوڑا وقت یا شام کا تھوڑا وقت۔ جسمی قیامت کے دن کہیں گے کہ ”ہم دنیا میں نہیں، ہے مگر تھوڑی دری“، ہم خود گزری ہوئی زندگی کا تصور کر کے دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی کے پچاس سال ایک خواب کی طرح سے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بچپن، کل کی بات ہے۔

سیدنا نوح عليه السلام کی جب وفات ہوئی تو پوچھ گیا: اے میرے نبی! آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ انہیں کم و بیش ایک ہزار سال کی زندگی ملی تھی۔ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ! ابھے یوں محسوس ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔

☆ اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جو لوگ کھیل تماشہ دیکھتے ہیں، انہیں بعد میں اپنے وقت کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے کہ پیسے بھی ضائع کیے اور وقت بھی ضائع کیا۔ بالکل اسی طرح دنیا وار انسان موت کے وقت اپنی گزری ہوئی زندگی پر حسرت

اور افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔

☆ کئی کھیل تماشے توڑ رائے کی مانند ہوتے ہیں، سکرین پر سائے کی مانند چلتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بھی سائے کی مانند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے۔

**دنیا کیا ہے؟**

جب دنیا کا نام لیا جاتا ہے تو کئی دوست اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے مراد سب کچھ چھوڑ دینا اور عبادت کے لیے غار میں جا بیٹھنا ہے۔ ہرگز ایں نہیں۔ مولا ناروں فرماتے ہیں:

”جوست دنیا از خدا غافل بدن“

[خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے]

اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ کام کا ج کرنا، مال و دولت ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، اس کا نام دنیا نہیں۔ چنانچہ ایسے انبیاء کرام علیہم السلام بھی گزرے ہیں، جو وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دین کی شاہی بھی عطا فرمائی اور دنیا کی شاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں ارب پتی ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار فقراء میں ہوتا ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں غریب ہو اور اللہ کے ہاں فرعون اور قارون کے ناموں میں اس کا نام بھی شامل ہو، یہ تو دل پر محصر ہے کہ دل کے اندر کیا بھرا ہے۔

**دنیا کی طالب کتے:**

نبی مسیح علیہم نے ارشاد فرمایا۔

## الْدُّنْيَا جِفْفَةٌ وَ طَالِبُوهَا كَلَابٌ

[دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتنے ہیں]

ممکن ہے یہ لفظ کسی کو ذرا ثقل لگے اس لیے کہ ابھی دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جس چیز سے محبت ہواں کی برائی کی جائے تو بری لگتی ہے مگر حدیث پاک کے الفاظ یہیں ہیں۔

### کتنے سے تشییہ کی وجہ:

نبی ﷺ نے کتنے کے ساتھ تشییہ کیوں دی؟ علماء نے اس کے بڑے علمی نکات بیان کئے ہیں۔ کتنا بھی مردار کھاتا ہے، کوئا بھی مردار کھاتا ہے مگر دنیا کے طلبگار کو کتنے سے تشییہ دی ہے، اس میں بنیادی فرق سمجھ لیں۔

(۱) کوئے کی عادت ہے کہ جب اسے مردار نظر آئے تو شور مچاتا ہے، اور وہ کو بھی بلاتا ہے تاکہ سب مل کر کھائیں۔ لیکن کتنے کی عادت ہے کہ اس کو کہیں سے مردار مل جائے تو خاموشی کے ساتھ سارے کاسارا خود چٹ کرنا چاہتا ہے۔ دنیادار کی بھی مثال ایسی ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے جہاں سے ملے بغیر کسی کو پتہ چلے میں اس کو پورا سمیٹ لوں۔

(۲) کوئے کو دیکھا کہ وہ باقی مردار کا گوشت تو کھائے گا، لیکن مردہ کو اپڑا ہو تو وہ نہیں کھائے گا لیکن کتنے کی عادت ہے کہ جہاں وہ باقی جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اور اگر اسے مردار کتا بھی مل جائے تو اسے بھی کھایتا ہے۔ دنیادار بندہ بھی اس طرح دوسرے انسان کا مال ہضم کرنے کے داؤ پر لگا ہوتا ہے۔

(۳) پھر دیکھا کہ کوا جہاں مرنے، دوسرے کوئے وہاں نہیں آتے، اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ چنانچہ کوئے کو مار کر لٹکا دیجیے دوسرے کوئے وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ عبرت پکڑتے ہیں۔ لیکن کتنا عبرت نہیں پکڑتا، ایک کتا جس جگہ

مرے دوسرا اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی کتنے کی سی بات ہے کہ وہ دوسرے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، عبرت پکڑنے کی بجائے خود بھی دیے گئے عمل شروع کر دیتا ہے۔

(۲) کوئے کو دیکھا کہ اگر دن میں وہ مردے کے پاس ہے بھی، تورات کو مردے کو چھوڑ کر گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے۔ مگر کتنے کی یہ عادت نہیں، وہ دن میں مردے کو کھاتا ہے اور رات کو اس کا پھرہ دیتا ہے، دن میں بھی مردے کے پاس اور رات بھی مردے کے پاس۔ اور یہی دنیادار کی بھی مثال ہے کہ سارا دن دنیا سمینے میں لگا رہتا ہے اور ساری رات دنیا سمینے کی پلانگ کرتا رہتا ہے۔ سارا دن یہ دکان کے اندر اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر، دن رات اسی سوچ میں لگا ہوا ہے۔

(۵) یہ بھی دیکھا گیا کہ کو اگوشت کھا لیتا ہے، ہڈیوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن کتا جہاں مردے کا گوشت کھاتا ہے وہاں اس کی ہڈیوں کو بھی چبایتا ہے۔ دنیادار کی بھی یہی ہے کہ وہ جس سے فائدہ لیتا ہے اس سے اپنا مال ہی واپس نہیں لیتا بلکہ سو در سو د واپس لیتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ دنیادار کی کوئے کی نسبت کتنے سے مشابہت زیادہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے مج فرمایا کہ واقعی دنیادار کے اندر وہی باتیں ہیں جو کسی کتنے کے اندر ہوتی ہیں۔

**آخرت دنیا پر مقدم ہے:**

دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیغام پہلی کتابوں میں دیا گیا اور آخری کتاب میں بھی دیا گیا۔ اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ارشاد فرمایا:

﴿بَلْ قُوْثِرُونَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي﴾

الصُّحْفِ الْأُولَى) ﴿الْأَعْلَى: ۱۶﴾

”تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، بے شک یہی بات پہلے صحفوں میں بھی درج ہے“  
اور یہ پیغام ہم اس آخری کتاب میں ہی نہیں دے رہے، بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ پیغام عطا کیا گیا۔ یہ ایسا پیغام ہے، جو انسانیت کو شروع سے لے کر آج تک مل رہا ہے۔

دنیا پر آخرت کو مقدم رکھو! اگر دنیا فنا ہونے والا سو نا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی تھیکری ہوتی پھر بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آخرت کو دنیا پر مقدم کر لیتے۔ جب کہ معاملہ الٹ ہے، دنیا فنا ہونے والی تھیکری کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والے سونے کی مانند ہے۔ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔

### دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب:

دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پر ترجیح دیا شروع کر دی اس نے گویا دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر طرف جال اور پھندے ہیں، اتنے پھندے ہیں کہ انسان کو ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب ان پر ہوتا ہے جو ان پھندوں سے ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں کہ کتنے عظیم لوگ ہیں!

ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم یہاں دنیا سمجھنے کے لئے محنت کرتے ہیں۔ جب کہ آخرت کو محنت کے ساتھ مشرود کیا اور اس کے لئے ہم محنت ہرگز نہیں کرتے۔

## طبع کے یار:

یاد رکھیے کہ اس دنیا میں سب طبع کے یار ہیں، اصل یا رالدرب العزت ہے یا پھر اللہ کے پیارے محبوب ملکہ زمین ہیں یا پھر جن کی زندگی ان کے نقش قدم پر گزرتی ہے، یعنی اولیاء اللہ۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو طبع ہوتی ہے، جس وجہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ رہ گئی بات رشتے داری اور برادری کی ان کو تو اپنے گوشت کا قیسہ بنا کر کھلادو وہ پھر بھی خوش نہیں ہونگے۔

## دنیا کی حقیقت:

انسان کا بہترین لباس، ریشم کا لباس ہے جو ایک کیڑے کی تھوک ہے۔ اور ان کا بہترین مشروب شہد ہے جو ایک مکھی کا لعاب ہوتا ہے۔ مکھی کا لعاب شہد بنا، کیڑے کی تھوک سے ریشم بنا۔ یہ ریشم اور شہد دنیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کے پیچے لگ کر انسان اپنے مالک کو ناراض کر لے۔ کتنا بڑا نقصان ہے اجو انسان رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں، جو دنیا کے پیچے بھاگنے والوں کو نہیں ملتیں۔

## فقیری کا مزا شاہی میں نہیں:

وہیں اسلام میں وہ لذت ہے کہ ایت تو ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے شاہی چھوڑ کر مصلی سنبھال لیا، فقیری اختیار کر لیں لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پا خدا فقیر نے مصلی چھوڑ کر شاہی اختیار کر لی ہو، جو مزا فقیری میں ہے وہ مزا شاہی میں نہیں ہے۔

## اللہ والوں کے خادم:

جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے

خادم، وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔

سرقد میں امیر تیمور کا مقبرہ دیکھنے کا موقع ملا، اور پر لکھا ہوا تھا ”امیر عالم“ (دنیا کا بادشاہ)۔ اسے اپنے وقت کا فاتح دنیا کہا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں اس کی قبر تھی اس کے بالکل اوپر ایک اور قبر تھی، حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگ کہنے لگے: یہ اس کے شیخ کی قبر ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر دوں تو مجھے اس طرح دفن کرنا کہ میر اس میرے شیخ کے قدموں کے بالکل قریب ہو۔ یہ دنیا کا فاتح ہے۔

حضرت خواجہ محمد معصوم صلی اللہ علیہ و آله و سلم سر ہند شریف میں جہاں آرام فرمائے ہیں، وہاں ان کے مقبرے پر جائیں تو ایک کھلی سڑک جاتی ہے، راستے میں ایک قبر کی وجہ سے اس سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پھر ایک کر دیا گی۔ اس عاجز نے وہاں کے سجادہ نشین سے پوچھا کہ اتنی اچھی سڑک جاری تھی، اس قبر کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، سڑک بعد میں بنی یا قبر بعد میں بنی؟ کہنے لگے: قبر بعد میں بنی۔ میں نے کہا: اتنی اچھی سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے: جی بات یہ ہے کہ یہ شخص افغانستان کا بادشاہ تھا، حضرت خواجہ محمد معصوم صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا مرید تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر دوں تو میرے شیخ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہو، مجھے اس راستے پر دفن کرنا۔ اللہ اکبر!

### اللہ والوں کی حکومت:

دنیا داروں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے خادم وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہوں کی عزت و قی ہوتی ہے، جب کہ اللہ والوں کی عزت دائمی ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسم پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔

ایک انگریز اجمیر شریف آیا، واپس گیا تو اس نے لوگوں کو اپنے تاثرات بتائے۔ کہنے لگا: میں نے زندہ لوگوں کو تو حکومت کرتے بہت دیکھا ہے، میں اس ملک میں گیا ہوں جہاں ایک مقبرے کو دیکھا کہ قبر میں پڑا شخص لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔

### صبرِ جمیل اور بھرِ جمیل:

انسان دنیا کے معاملات کو جلدی سمیٹ لیتا ہے، ایک صبرِ جمیل کے ساتھ اور ایک بھرِ جمیل کے ساتھ۔ صبرِ جمیل کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو صبر کر لے، شکوہ نہ کرے۔ اگر کسی نے دکھ دیا تو انسان اس سے شکوہ ہی نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے مقابلہ بازی کرنا، خند بازی کرنا، جھگڑا بڑھالینا، مومن دنیا کی خاطر الجھانیں کرتا۔ اگر کہیں پر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو صبراً جمیل، صبر کرتا ہے۔ اور صبر کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ کوئی معاملہ ہو تو بھرِ جمیل، کیا مطلب؟ کہ جدا ہی بھی ہو تو اچھے انداز سے۔ آج تو تعلقات بھی ہوتے ہیں، عداوت بھی چلتی رہتی ہے۔ دشمنی کے رنگ میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دوست کون ہے؟ اور دشمن کون ہے؟

اس دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بندے کو خوشی ملے تو میری بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اگر اس کو کوئی غم ملے تو یہ اس پر صبر کر کے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔

### دنیا پرستین کا مجموعہ ہے:

اس دنیا میں انسان کو مختلف قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ دنیا تو ہے ہی

ضدین کا مجموعہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ضد سے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ان نے ہوتا تورات کی قدر نہ آتی، اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہ آتی، دھوپ نہ ہوتی تو زندگی کی سائے کی قدر نہ آتی، یماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر نہ آتی، موت نہ ہوتی تو زندگی کی قدر نہ آتی۔ اسی طرح حق باطل بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان انسان کو باطل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس کی مان کر زندگی گزارتا ہے؟ آیا نفسانی شیطانی خواہشات کے پیچھے لگ کر زندگی گزارتا ہے یا ان خواہشات کو دبا کر اپنے مالک کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ تخفی طور پر موت چلتی رہے گی۔

### موت کا وقت مشکل ترین وقت:

اس لئے شیطان موت کے وقت اتنا زور لگاتا ہے جتنا وہ لگا سکتا ہے۔ موت کا وقت انسان کے لیے مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان اگر جیتے جا گتے ہوئے بہکایتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی پورا نہیں ہوتا اس وقت تو بہکانا اس کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے۔ انسان صرف اسی صورت میں بچتا ہے جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے ورنہ نہیں بچ سکتا۔

### حق و باطل کی کھلی نشانیاں:

قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کی کھلی نشانیاں بھی دکھائیں گے۔ مثال کے طور پر: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اور دجال کا ظاہر ہونا یہ بھی حق و باطل کا واضح مقابلہ ہے۔ ہم اگر غور کریں تو بڑی مشتبہیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بشری بنائی اور فطرت مکوئی بنائی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کیا، اس کی صورت انسانی

بنائی مگر فطرت شیطانی بنائی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہم کو آسمانوں میں رکھا، قرب قیامت میں ان کو ملک شام کی مسجد کے منار کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کیا اور ایک جزیرے کے اندر رکھا، حدیث پاک میں اس کے لیے يَخْرُجُ اور "يَظْهَرُ" کا لفظ آتا ہے وہ ظاہر ہو گا۔

حضرت عیسیٰ علیہم جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی عبادیت کا دعویٰ کیا۔ جب کہ دجال جب ظاہر ہو گا، اپنی الہیت کا دعویٰ کرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہم کے دور میں اتنی ماں میں برکت ہو گی کہ کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملے گا۔ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ اتنی ماں کی بہتانات ہو گی کہ دنیا کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔

اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہم کو مردوں کو زندہ کرنے کا مجذہ عطا کیا۔ اللہ کے اذن سے دجال کو بھی یہی استدرج کے طور پر دیا جائے گا، وہ بھی مردوں کو تھوڑی دیر کے لئے زندہ کرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا، چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں بتا دیا کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ سب ان پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ دجال کا فتنہ بھی مشرق اور مغرب اور اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا اس حق و باطل کی جنگ میں بالآخر فتح حضرت عیسیٰ علیہم کی ہو گی۔ حضرت عیسیٰ علیہم دجال کو مقام لد پر جا کر قتل فرمائیں گے۔

**انسان میں حق و باطل کی مخفی جنگ:**

مخفی طور پر یہ جنگ ہماری بھی ہو رہی ہے۔ زندگی میں آپ سوچیے ہر انسان کے دل پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو تعین کیا، جو اس میں خیر کے جذبے کو ڈالتا ہے۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان بنی آدم کے دل کے اوپر ذیرے ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف بلار ہے ہوتے ہیں، شیطان اس کو برائی کی طرف بلار ہا ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر خیر غالب آتی ہے یا شر غالب آتی ہے۔ خیر غالب آئے تو اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔

### مٹی سے مانوسیت:

یاد رکھیں! کہ مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے، زندگی میں ہی مٹی سے مانوس ہو جائیں۔ اپنے نفس کو خود ہی منادیں۔ جو اپنے آپ کو مٹی جیسا بنائے اس کو مسکین کہتے ہیں، یہ مسکین لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کی محفل میں حاضر ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے کہ کپڑے کی پھٹی ہوئی جگہ سے جو جسم ہمارا ظاہر ہے اس پر کہیں محظوظ مسکین کی نگاہ نہ پڑ جائے اور میں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ کہ نبی ﷺ نے بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعاء نگتے ہوئے فقراء مہاجرین کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ! ان کی برکتوں سے ان دعاوں کو قبول فرمائے۔

### فقراء کی اغذیاء پر فضیلت:

جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیمت کے دن تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ فقراء کی محفل تھی، نبی ﷺ نے ان سے تمباں فرمائیں:

اے فقراء! تم کو تمیں ایسی چیزیں نصیب ہیں جو دنیا میں اغذیاء کو حاصل نہیں۔ تمہیں جنت میں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ جو چیزیں دنیا میں امیروں کو حاصل نہیں:

(۱) آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے ۵۰۰ سال پہلے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔

(۲) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فقراء کو تسبیح پڑھنے پر وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مالداروں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا

(۳) فرمایا: قیامت کے دن جنت میں فقراء کو اتنے بلند درجے عطا فرمائیں گے کہ مالدار لوگ جنت میں ان کے محلات کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے دنیا میں آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔

### فقراء سے دوستی کا فائدہ:

حضرت حسن بصری رض فرماتے تھے کہ فقراء سے دوستی رکھا کرو! اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم سے جنہوں نے دوستی کی یا تم نے جن سے محبت کی، تم خود بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔

روایت میں آتا ہے کہ ایک فقیر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ کھڑا رہے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کو تو اجازت مل گئی پھر آپ کیوں کھڑے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے شرم آرہی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤ اور جن لوگوں نے مجھے کھلایا پلایا وہ ابھی پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرمائیں گے اور حکم دیں گے کہ جتنے لوگوں نے تم سے محبت کا تعلق رکھا، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔

### ٹھنڈا سانس سو سال کی عبادت کے برابر:

ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ

ایک بندہ غریب ہے، اس کی ایک جائز تمنا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں۔ مثلاً: ایک غریب آدمی ہے، اولاد زیادہ مگر آمدنی کم ہے، وہ جائز تمنا پوری نہیں کر پاتا، اس وجہ سے شخصی سانس لے لیتا ہے تو ابو سلیمان درانی صحتیہ فرماتے تھے کہ جائز تمنا پوری نہ ہونے پر فقیر کا شخصی سانس لے لیتا، آدمی کی سوالہ عبادت کے برابر ہے، اللہ اس کی شخصی سانس پر اتنا اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ

### أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْتِظَارٌ

”مصائب کے اندر رحمت الہی کا انتظار کرنا، عبادتوں میں سے سب سے  
فضل عبادت ہے“

آپ نے دیکھا ہو گا کہ اکثر لوگ تذکرہ کرتے وقت کہتے ہیں۔ حضرت ابوی دعائیں مانگتے ہیں، حالات نہیں بدلتے، پر یہاں جان نہیں چھوڑتیں، اتنی بد تگز رکھی۔ ذرا اس حدیث کو تو سینیں! کہ جو آدمی مصائب کے اندر گرفتار ہو، دعائیں مانگتا ہو کہ اے اللہ! اس مصیبت کو ختم کر دے تو اس انتظار پر اس کو وہ اجر ملتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو عبادت پر بھی نہیں ملتا۔ حالات، دنیا کے اختبار سے اچھے نہ ہوں تو صبر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اپنے رب کی رضا سے راضی رہیں۔ اہل دل ان کو سمجھتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے ببریز ہوتے ہیں اس لیے کسی غریب کو یا کسی گنہگار انسان کو کم نظر سے نہ دیکھیں اکیا پتہ وہ غریب آدمی اللہ کی نظر میں اس امیر کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو اور کیا پتہ وہ گنہگار آدمی۔ ایسی توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔

ایک گناہ گار اور ایک عابد کا انجام:

حضرت عیسیٰ یعنی ایک جگہ جار ہے تھے۔ آپ نے ایک گنہگار کو دیکھا جو اپنے

گناہوں پر بہت نادم اور شرمندہ تھا۔ گنہگار سے پوچھا، کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بڑے گناہ کئے ہیں، بس یہی خواہش ہے کہ مالک معاف فرمادے۔ ذرا آجے ایک عبادت گزار کو دیکھا، عبادت گزار سے پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے اس گنہگار کی طرف اشارہ کر کے کہا: میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میرا حشر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖۤہٗ وَسَلَّمَ پر وحی نازل فرمادی کہ اے میرے پیارے روح اللہ! آپ ان دونوں سے کہہ دواہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ جو گنہگار مجھ سے رحم طلب کر رہا تھا میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس پر جنت واجب کر دی اور عبادت گزار نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھانے کرنا، چونکہ اب وہ گنہگار جنت میں پہنچ چکا ہے، اس لیے میں اس عبادت گزار کو جنت کی بجائے جہنم میں داخل کروں گا۔ لہذا ہمیں اپنی عبادت پر نازنہ ہو، گناہوں سے نفرت ہو گنہگار سے نفرت نہ ہو۔

### غريب کی آہ سے ڈرو:

امیروں سے نہ ڈرو، غربیوں کی آہ سے ڈرو! اس لئے کہ امیر بھائی گا تو حاکم کے دروازے پر جائے گا اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی۔ اللہ رب العزت بڑے قدر دان ہیں۔

ایک دفعہ سردار ان قریش مکہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آقائے محبوب ﷺ کی چاہت تھی کہ اگر یہ دین میں آجائیں تو اور بہت سارے لوگ دین میں آجائیں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو نصیحت فرمانا شروع کر دی۔ جب ان کو نصیحت فرمائے تھے تو اس وقت ایک نایبنا چلتا ہوا محبوب ﷺ کی خدمت میں آیا، طلبگار ہوا کہ مجھے بھی نصیحت کی جائے۔ نبی ﷺ کے ذہن میں بات آئی کہ یہ تو اپنا ہے، بعد میں بھی نصیحت فرماسکتے ہیں، قریش مکہ تواب آکر بیٹھے ہیں تو یہ موقع اچھا

ہے۔ جب اس ناپینا صحابی نے اپنی بات بڑھانے کی کوشش کی تو نبی ﷺ کے دل میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی، چہرہ مبارک پر غصے کے تھوڑے سے آثار آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیات اتاردیں۔ اپنے محبوب ﷺ سے محبوبانہ خطاب فرمادیا:

عَبْسَ وَقُولَّيْ ۝ أَنْ جَاءَهُ الْأَغْمَىٰ ۝ وَمَا يُذْرِيكَ لَعْلَةً يَرَّىْ ۝ أَوْ  
يَدْكُرُ فَتَنَفَّعَهُ الْذِكْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مِنْ اسْتَغْنَىٰ ۝ فَأَنْتَ لَهُ تَصْدِىٰ ۝  
وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَىْ ۝ وَأَمَّا مِنْ جَانَكَ يَسْعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝ وَ  
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهُىٰ ۝ (عبس: ۱۰-۱۱)

اور وہ بندہ جودوڑتا ہوا آپ کی طرف آیا، تیز تیز چل کر آیا۔ ویکھو طلب ہوتا یہی کہ بندہ نیک محفل میں جائے تو تیز تیز چل کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے آیا؟ وَأَمَّا مِنْ جَاءَ لَهُ يَسْعَىٰ۔ ایک تو یہ صفت کہ طلب ایسی کہ تیز تیز محفل میں آئے اور دوسرا خاص صفت یہ کہ وَهُوَ يَخْشَىٰ کہ دل کے اندر خیست تھی، ایسے بندے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی کہ روایات میں آیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ صحابی ﷺ آتے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ سردار ان قریش اپنی جگہ پر، مسکین، غریب، ناپینا اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیانا ہے، دل میں خیست ہو، طلب ہو، اللہ کی محبت ہو، اس کی ظاہری حالت اس کی غریبوں والی بھی ہوتا اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

### بڑے بوجھوانے لوگ:

آج پیانے بدل گئے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، کہتے ہیں: جی بڑے لوگ ہیں، ان کے گھر بڑے ہیں۔ کوٹھیاں ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ رہتے

ہیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کی بڑائی ہے، دنیا والے ان کو بڑے لوگ کہتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں۔ بے چاروں کو پہنچنیں حساب کتاب دینے میں کتنا وقت لگے گا؟۔

### مالدار یا مال کے چوکیدار:

کئی لوگوں کو دیکھا کہ مالدار ہوتے ہیں اور کئی مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے، جسے اللہ رب العزت بہت زیادہ مال دے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس کو دین کے کاموں میں لٹائے، یہ حقیقی مالدار ہے جو اس کو آخرت کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ اور جو جمع کرتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے، یہ بندہ مالدار نہیں، مال کا چوکیدار ہے، جمع کر کے مر جائے گا۔ عیش اولاد کرے گی، قیامت کے دن حساب اسے دینا پڑے گا۔

### عزت والا کون؟

ہم دوسرے کی شخصیت میں نیکی دیکھیں تو اس کو عزت دیں، مال کی وجہ سے عزت نہ دیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

**﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ﴾**

[بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیز گار ہے]

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”جس بندے نے مالدار بندے کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کی ایمان کا تیرا حصر ضائع ہو گیا“۔ ہماری نظر میں عزت پابندی شریعت کی ہو، نیک اعمال کی ہو۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو اس کی عزت ہو۔

## اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں:

جتنے اعمالِ ہم لوگ کرتے ہیں وہ بخشنونے کے لئے ناکافی ہیں۔ اخلاص کی کمی کو ناکافی بنادیتی ہے۔ اگر اخلاص کی کمی نہ ہو تو جتنے اعمالِ ہم کردے ہے ہیں ذکر و فکر والے، یہ بخشنونے کے لئے کافی ہیں۔ مگر چونکہ اخلاص نہیں ہوتا، ریا کاری آجائی ہے اس لیے بڑے اعمال کے باوجود ان کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ مخلص بندہ دور رکعت پڑھے گا، اتنا اجر ملے گا کہ غافل بندے کو ہزاروں رکعت پڑھنے پر بھی وہ اجر نہیں ٹلے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ”متقی آدمی کی دور رکعت پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں جو غیر متقی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے۔“ لہذا اگر اخلاص میں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول نہیں ہو گا۔

## اخلاص کی کمی پر اجر کی کمی:

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے، رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک قرآن مجید ہے، جس کے اوپر سبھری حروف کے ساتھ قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ سورۃ طہ خواب میں بھی پڑھی، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورۃ طہ کی تلاوت کا اتنا اجر لکھ دیا گیا۔ جب شوق شوق سے دیکھ رہے تھے تو ایک صفحے پر دیکھا کہ اس میں کچھ آیات کی جگہ خالی ہے۔ تو خواب میں حیران ہوئے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ سوچتے رہے، سوچتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمی، خواب میں ہی خیال آیا کہ ہاں جب میں تلاوت کر رہا تھا، جب ان آیات پر میں پہنچا تو ایک واقف بندہ قریب سے گزرنا، میرے دل میں خیال آیا کہ میری تلاوت سن کر خوش ہوا ہو گا، اتنا خیال پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تلاوت کے اجر سے محروم فرمادیا۔ سوچتے یہ چلا کہ اخلاص کی کمی عملوں کے اجر کو کم کر دیتی ہے۔

## وزن اعمال کی سائنسی توجیہہ:

اللہ تعالیٰ کے ہاں دستور ہے کہ جتنا زیادہ خلوص ہو گا اتنا اجر زیادہ ہو گا۔ آج سائنس کی دنیا ہے۔ کئی باتیں سائنس کی وجہ سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہیں۔ امام بخاری ”بخاری شریف“ میں جو آخری حدیث لائے، اس میں انہوں نے وزن اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ختم بخاری شریف کی اکثر محفوظ میں درمیں حدیث دینے والے اکثر عده نئے کرام وزن اعمال پر خوب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پہلے دور میں اشکال پیش کیا جاتا تھا کہ اعمال کیسے تولیں گے؟ کیا ان کو بھی تولا جاسکتا ہے؟ اور آج کے دور میں دیکھ لیں تھر ما میٹر کے ذریعے گرمی کو بھی تولا جاسکتا ہے، سردی کو بھی تولا جاسکتا ہے، ہوا میں موجود نبی کو بھی تولا جاسکتا۔ ہر چیز کی پیمائش کے پیمانے بن گئے ہیں کہ ان کو کیسے تولا جاسکتا ہے۔ لیکن ذرا سائنس کی بات پر غور کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائی ہے کہ اعمال کو تولا جاسکتا ہے۔

سائنسی نقطے سے فارمولایہ ہے کہ ایک کیت ہوتی ہے اور ایک کشش ثقل ہوتی ہے۔ فارمولہ لکھتے ہوئے کیت کو  $m$  لکھتے ہیں اور کشش ثقل کو  $g$  لکھتے ہیں۔ اور  $g$  کو ضرب دیتے ہیں تو کسی بھی چیز کا وزن نکل آتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی زمین پر ہے تو زمین کی کشش ثقل کے مطابق اس کا وزن ہو گا۔ وہی آدمی اگر چاند پر چلا جائے تو چونکہ اس کی کشش ثقل وہاں کم ہو گی، اسی بندے کا وزن وہاں جا کر کم ہو گا اور وہی بندہ اگر مریخ پر چلا جائے تو وہاں کشش ثقل بہت زیادہ ہو گی، اسی بندے کا وزن وہاں زیاد ہو گا۔ بندہ وہی ہے کہ کشش کے بڑھنے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گھٹنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ اگر خلاء میں چلا جائے جہاں کشش ہے

ہی نہیں تو وہی جسم ہونے کے باوجود اس بندے کا وزن نہیں رہے گا۔ چنانچہ جو لوگ خلاء میں جاتے ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، ان کا وزن بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وزن ہے لیکن کشش نہ ہونے کی وجہ سے کتنے بلکہ وزن بن گئے تو سامنس کی اس بات سے اعمال کے وزن کی بھی توجیہ مل جاتی ہے۔

قیامت کے دن جس بندے میں ایمان کی کشش ہوگی اس کے اعمال وزن والے ہوں گے اور جس کے اندر ایمان کی کشش نہیں ہوگی پہاڑوں کے برابر بھی خیر کے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کافروں کے عملوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔

**﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَزْنَا﴾ (الکھف: ۱۰۵)**

[ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے] یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو پیش نہیں کریں گے، پیش تو کریں گے، کسی کی ہمدردی کی، ہاضمیں بنوادیا، یا کسی غریب کی مدد کی، یہ سب اچھے کام ہیں لیکن ان اچھے کاموں کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے اچھے کاموں کے اندر ایمان کی کشش نہیں ہوگی۔ جب انکی  $g$  (کشش ثقل) زیر و ہے تو پھر  $m$  کیتے ساری دنیا سے بھی زیادہ ہو جائے پھر بھی وزن زیر و ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ دیکھیے! اللہ رب العزت نے کیسی عجیب بات فرمادی کہ ہم ان کافروں کے عملوں کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔

معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاق یہ کشش کی مانند ہیں۔ یہ کشش ثقل (Gravitaional force) ہیں جتنی زیادہ اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے، اسی قدر ہم اجر زیادہ پائیں گے اور اگر اخلاق اور ایمان میں کمی آتی جائے گی، اسی قدر عمل کے اجر ملنے میں کمی ہوتی جائے گی۔

## اجتماع کا بنیادی مقصد:

ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد اپنی زندگی میں اخلاص کو بڑھانا ہے۔ ہر بندہ جو اس اجتماع میں حاضر ہوا ہے، اس کو اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کیا میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے یادِ دنیا کی واد واد کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ایک غم ہے جو آپ اپنے دلوں میں لے کر یہاں تشریف لائے ہیں، الہذا گزارش یہ ہے کہ اس قیام کے دورانِ دنیا کے تذکروں سے پر ہیز یکجیئے۔ یہ جو دنیا کا Topic (موضوع) اتنا کھول کر بیان کیا، یہ اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا

**الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ** [دنیا ملعونہ ہے]

اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا، آج تک اس کو خوشی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہاں آکر بھی اگر دنیا کے ہی تذکرے کرنے ہیں تو پھر اتنی قربانی کر کے آنے کا کیا فائدہ۔ شیطان کوشش کرے گا کہ جس کمرے میں آپ مل کر بیٹھے ہیں وہ اس کمرے میں کسی کو ادھر کی بات سنائے گا، کسی کو ادھر کی بات سنائے گا۔ ہم یہاں دنیا کے تذکرے کرنے تو نہیں آئے۔ باوجود اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب رہائش رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، دنیا کے تذکرے زبان سے ختم کر دیجیے۔

## اجتماع میں وقت کیسے گزاریں:

یہ جو دو دن کا وقت ہے، ان دنوں میں دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیے۔ وقوف قلبی، رابطہ قلبی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ دن رات ایک غم لگا ہو، ایک فکر لگی ہو جیسے مختلف آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ وقت میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، آپ بھی گویا یہ چند دن اللہ کی طرف توجہ رکھیے۔ آپ کھانے کی طرف تشریف لے جائیں دارالعلوم میں، پھر بھی ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھیے۔ کھانا

کھاتے ہوئے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیے، جب آپ اللہ کے دھیان میں اپنا وقت گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمدن دن میں اتنا فائدہ ہو گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ میرے اندر سے دنیا کی طلب گھٹ گئی ہے، اللہ رب العزت کی طلب بڑھ گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے دلوں کو واپس لے کر جائیں گے۔ شیطان کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو دنیا میں الجھائے تو اپنے آپ کو الجھنیں نہ دیجھے گا۔ اگر کوئی دنیا کی بات کرے بھی تو اسے منع فرمادیجھے۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں۔

### اللَّذِيَا يَوْمَ وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ

[دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے] اور دیے بھی یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہوگی، اس رات میں آئندہ پورے سال کا بجٹ بنا یا جاتا ہے، آسمانوں پر اس کی اہمیت ہے۔ اس وقت کو خیمت سمجھیے، یادِ الہی میں گزاریے کیا معلوم کہ یہ تمدن دن اللہ رب العزت کے ہاں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں؟

### چنے ہوئے لوگوں کا مجمع:

اجمیع میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے دوست احباب تشریف لائے ہیں؟ اس محفل کی دعا میں قسمت سے ہمیں ایک دفعہ پھر مل گئیں کہ زندگی کے عالم الحادث میں اگر ہماری دعا میں قبول ہونے کے قابل نہیں تو اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جو اخلاص والے لوگ ہیں! بھی! ہم گنہگار ہیں تو نیک لوگ بھی تو یہاں آئے ہوئے ہیں، کیا پتہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں بھی قبول فرمائیں؟

الحمد للہ! دوست احباب خط لکھتے ہیں تو ان کے اور ادو و ظائف اتنے اچھے ہوتے ہیں۔

ایسے لوگ بھی اس مجمع میں ہیں جو ہزار بار کلمے کا ورد کرتے ہیں۔

ایسے بھی ہیں جو روزانہ سات ہزار بار کلمے کا ورد کرتے ہیں۔

ایسے بھی ہیں جو روزانہ دس ہزار بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتے ہیں۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ پندرہ پارے پڑھتے ہیں۔

اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معمول ایک قرآن پاک روز پڑھنے کا ہے،

یادہ جانتے ہیں یا ان کا شیخ جانتا ہے،

ایسے نہیں کہ یہ انہ کر آگئے ہیں۔ الحمد للہ اپنے ہوئے لوگوں کا مجمع ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے۔ چنانچہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خواب میں نبی ﷺ کی ایک بار نہیں، دو بار نہیں درجنوں بار زیارت ہو چکی ہے۔ ایک ایسے بھی بزرگ ہیں کہ جن کو زندگی میں سو مرتبہ سے زیادہ دفعہ اللہ کے محبوب ﷺ کا دیدار ہو چکا ہے۔ ایک ایسے بھی ہمارے دوست ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی ہفتہ بنی ﷺ کے دیدار کے بغیر نہیں گزرتا۔ ایسے بھی اس مجمع میں ہیں کہ ان کی زندگی کے گیارہ سالوں میں ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سب تو ایک جیسے نہیں ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں پہنچا دیا تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ باتیں عام طور پر کی نہیں جاتیں لیکن آپ دوستوں کی ترغیب کے لیے ہے۔ تاکہ احساس ہو کہ ہم کس مجمع میں وقت گزار رہے ہیں؟

اپنے وقت کو قیمتی بنائیں:

ہم بھی اس وقت کو قیمتی بنائیں، ماں کے پیٹ سے بن کر کوئی نہیں آتا، اس دنیا

میں اپنے آپ کو بنانا ہے، یہ تین دن یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بنانے میں وقف کر دیے ہیں۔ اگر ہمیں معمولات میں کمی کا شکوہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں استقامت عطا فرمادیں۔ اگر ہم اپنے نفس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں تو تجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کریں۔ اس طرح آپ ذوق و شوق سے وقت گزاریں گے تو رب کریم کی رحمتیں ہوں گی، دعا میں قبول ہو گی۔

### ازلی دشمن سے ہوشیار !!!

ہم دو دشموں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک اندر ونی اور ایک بیرونی دشمن۔ ہمارا اندر ونی دشمن ہمارا نفس ہے اور بیرونی دشمن شیطان ہے، یہ ازلی دشمن ہے۔ شیطان ملعون ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس دشمن کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا دشمن ہے کہ ہم کھانے پینے میں، ضروریات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری تاک میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی ایسی کوئی ضروریات نہیں ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں اس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ ہر وقت ہمیں گرانے کے لیے مکر کرتا رہتا ہے۔ بعض دوستوں کو دیکھا کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو با تمنی کرتے رہتے ہیں اور چونکہ رات جا گئے رہے، اس لیے جب سچ کا درس ہوتا ہے تو ان کو مراقبہ کی شکل میں نیند آ رہی ہوتی ہے۔ اپنے انفرادی اعمال کریں، اپنی انفرادی تلاوت، اپنی تسبیحات، اپنے معمولات کو پورا کریں پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے اور ہم عاجز مسکینوں کے نوٹے پھوٹے نیک عملوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔



وَلَقَدْ وَصَّلَنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَإِيَّاكمُ أَنْ تَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ (النَّسَاءُ: ٣٠)

## تقوی کے شرات

حضرت اقدس دامت برکاتہم کا یہ بیان 28 ستمبر 2005ء کو بعد از  
نماز مغرب، جامع مسجد نہب معهد الفقیر الاسلامی جھنگ میں  
سالانہ اجتماع کے بعد خصوصی تربیتی مجالس میں ہوا۔

## افتباں

اگر یہ عاجز سمجھانے کی خاطر سادہ لفظوں میں متقی کی تعریف کرے تو یہ ہو گی کہ جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس شخص کو متقی اور پیر ہیز گار کہتے ہیں۔ اس لیے جو شخص محتاط زندگی گزارے۔  
... اللہ تعالیٰ کا حق بھی پورا کرے۔

اللہ کے محبوب ﷺ کے حقوق بھی پورے کرے۔  
والدین کے حقوق بھی ادا کرے۔  
..... اول د کے حقوق بھی ادا کرے۔

..... ہمایوں اور رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرے  
... اور دوست احباب کے حقوق بھی پورے کرے۔  
اس شخص کو متقی اور پیر ہیز گار کہا جائے گا۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## تفویی کے ثمرات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
وَلَقَدْ وَصَّلَنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ  
(النساء: ۳۰۱)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝  
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

شبہ والی چیزوں کو چھوڑ نے کا حکم:

تفویی، شریعت پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کا درس را نام ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

الْحَلَالُ بَيْنَ الرَّحْمَمْ بَيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتْ .  
[حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزوں ہیں]

یعنی حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ ایسی چیزوں بھی ہیں جو بندے کو شبہ میں ڈال دیتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ان شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ متحق اور پرہیزگار ہوتا ہے۔

## پروردگارِ عالم کی وصیت . . . !!!

تقویٰ ایمان والوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاُكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ  
(النساء: ۳۰۱)

[اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی یہ وصیت کی اور تمہیں بھی یہ وصیت  
کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ذرا روا]

اس آیت میں اللہ درب العزت عجیب انداز میں اس امت کو اپنا حکم سنارہ ہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو! یعنی یہ ایک ایسا پیغام ہے جو پہلی امتوں کو بھی مدد اور اس امت کو بھی مدد ہے، اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو کسی بندے کی زندگی کا آخری پیغام ہوتا ہے۔ عام طور پر تو نصیحت کی جاتی ہے لیکن تمام زندگی کی نصیحتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اللہ درب العزت نے یہاں تقویٰ کے لیے وصیت کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اس بات سے بھی تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا اولیٰ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا:

﴿أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا يَخْوَفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (یوس: ۲۱)

[جان لوکہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے]

خوف، باہر کے دشمن کے ذر کو کہتے ہیں اور حزن، اندر کے غم کو کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اولیاء کے اندر نہیں ہوتیں۔ آگے فرمادیا کہ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقْوَى﴾ (یونس: ۶۲)

[جو ایمان لاتے اور انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا]

ایک اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ فرمادیا:

﴿إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ (الانفال: ۳۲)

[اللہ کے دوست پر ہیزگار ہوتے ہیں]

کوئی بھی فاسق و فاجر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔

### ولایت کے درجات:

ولایت کے دو درجے ہیں۔

(۱) ولایت عامہ (۲) ولایت خاصہ

جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اسے ولایت عامہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (آل عمران: ۲۵۷)

[اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا]

ولایت خاصہ کے لیے تقویٰ لازمی، ہے۔ اس لیے جو انسان متقی اور پر ہیزگار بنے گا، اسے ولایت خاصہ نصیب ہو گی یعنی اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔

### تقویٰ..... اکابرین کی نظر میں:

اب تقویٰ کی حقیقت کو کھولنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر غیر محروم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچار کھو! اس کے چہرے کو دیکھنا تو حرام ہے لیکن اگر کوئی عورت برقع پہنے ہوئے ہے اور اس پر نظر

پڑ گئی تو اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، تاہم غیر محروم عورت کے کپڑوں پر بھی نظر نہ ڈالنا، یہ تقویٰ ہے یعنی اس کے قد و قد مت کا اندازہ بھی دل میں نہ لائے اور دل میں یہ خواہش بھی نہ اٹھے کہ اس کے کپڑوں کا رنگ پیلا ہے یا نیلا ہے۔

☆ حضرت عمر رض نے ایک مرچہ حضرت ابن کعب رض سے پوچھا۔ تقویٰ کے کہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا: کیا آپ کبھی خاردار راستے میں سے گزرے ہیں؟ فرمایا: جی ہاں۔ پوچھا: کیسے گزرتے ہو، میں ایسے راستے سے نجی بچا کے اور سمت سمنا کر گزرتا ہوں تاکہ میرا دامن کسی کا نئے میں الجھانہ جائے۔ ابن کعب رض نے فرمایا: کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان اس طرح احتیاط کی زندگی گزارے کہ اس کا دامن کسی گزہ سے آلووہ نہ ہو۔

☆... ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت: متقیٰ کون ہوتا ہے؟ فرمایا متقیٰ وہ انسان ہوتا ہے جس کے قلب کی تمناؤں اور آرزوؤں کو اگر مجسم کر کے سر بازار لوگوں کو دکھائیں تو ان میں کوئی بھی ایسی تمنا نہ ہو جس کی وجہ سے اسے ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ کیا مطلب؟ یعنی ظہر میں گناہ کرنا تو دور کی بات، اس کے ا، میں بھی کوئی ایسی تمنا نہ ہو کہ جس کے اظہار پر اسے ندامت اٹھانی پڑے۔

☆ ہمارے حضرت خواجہ محمد عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء کہلاتے تھے۔ تقیم ہند کے وقت حضرت حسین احمد مدفی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ایسے شاگرد تھے، جنہوں نے ان سے دورہ حدیث کیا تھا۔ انہوں نے حضرت مدفنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت! جب پہلے کسی مسئلے کے بارے میں رجوع کی ضرورت پیش آتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اب ملک تقیم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آپ کی خدمت میں آنا جانا مشکل ہے، اس لیے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت مدفنی رحمۃ اللہ علیہ نے تین حضرات کے نام لیے، جن میں سے ایک نام

حضرت خواجہ محمد عبدالمالک صدیقی صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ کا تھا، کہ یہ ایک متقد اور تبعیع سنت بزرگ ہیں، اگر ان کے ساتھ تعلق رکھو گے تو پھر تمہیں کسی اور مرتبی کے پاس جانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ایسے پکے بزرگ تھے کہ اگر ار کے خلفاء کے ناموں کی فہرست دیکھیں تو وہ کم بیش دوسو ناموں پر مشتمل ہے، ان تمام ناموں کے ساتھ ناظم، مہتمم، مفتی، حافظ اور قری میں سے کوئی نہ کوئی نام ضرور ملتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی اہل علم حضرات کا امام بنادیا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت تقویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وس علیہ الرحمۃ الرحمۃ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کو اختیار کرنے سے تعلق بالتدبیس فرق آجائے، اس کو چھوڑ دینا تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقویٰ پچھ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نہ کرنے کا نام ہے۔ سالکین اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ تقویٰ یہ نہیں کہ دور کعت نفل پڑھ لیے یا صبح اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضریب لگا لیں بلکہ کچھ کام نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ کون سے کام؟ جو کام اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں ان کو چھوڑ دے، حرام کام بھی نہ کرے اور جس کام میں حرام کا شہر ہو اس کو بھی نہ کرے، اس لیے اس کا نام پر ہیز گاری پڑ گیا۔

اگر یہ عاجز سمجھانے کی خاطر سادہ لفظوں میں متقد کی تعریف کرے تو یہ ہو گی کہ جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس شخص کو متقد اور پر ہیز گار کہتے ہیں۔ علم اور ارادے کی بات اس لیے کی کہ مشکوٰۃ شریف کی آخری احادیث کا مفہوم ہے کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور نیان کو اٹھایا ہے۔ اگر بھول چوک سے کوئی کوتا ہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرمادیتے ہیں، نقصان دہ وہ چیز ہوتی ہے جو جان بوجھ کر کی جائے۔ اس لیے جو شخص محتاط زندگی گزارے۔

اللہ تعالیٰ کا حق بھی پورا کرے۔

اللہ کے محبوب ملیکہ نعمت کے حقوق بھی پورے کرے۔

والدین کے حقوق بھی ادا کرے۔

اولاد کے حقوق بھی ادا کرے۔

ہسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرے

اور دوست احباب کے حقوق بھی پورے کرے۔

اس شخص کو تلقی اور پیر بیز گار کہا جائے گا۔

اب ہم اپنی بحث خود کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں کس درجے کا تقویٰ لیے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر دوسرا بندہ ہمارا اگر یہاں پکڑنے والا ہے؟

### تقویٰ... قرآن مجید کی نظر میں:

قرآن مجید سمجھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس میں جا بھی تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اتنی تاکید شاید ہی کسی اور حکم کے پرے میں کی گئی ہو جتنی تاکید تقویٰ اختیار کرنے کی گئی ہے۔ فرمایا

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوْهُ﴾ (آل عمرہ ۲۲۳)

(اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم نے اللہ سے ملاقات رکنی ہے)

بلکہ ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ بھی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ایسی ہے جیسے میں ایک سانس میں کوئی کام دو دفعہ کہوں، ایک دفعہ کہہ دینا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ہی سانس میں دو دفعہ کوئی بات کہوں گا تو اس سے اس بات کی تاکید بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تقویٰ کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ اس کا حکم دیا ہے۔ سینے اور دل کے کانوں سے سینے! ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَسْتَأْنُوْرُ نَفْسٍ مَا قَدَّمْتُ لَفَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (الحشر: ۱۸)

[اے ایمان والوں! اللہ سے ڈر و اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت کے دن) کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور اللہ سے ڈر و یہ ایک ہی آیت ہے اور اس میں دو مرتبہ **إِتَّقُوا اللَّهُ** کے الفاظ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اتفاقاً ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہے، نہیں بلکہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔]

**﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾**

( النساء: ۱)

اب بتائیں، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت میں دو مرتبہ اتفاقاً کا امر کیا اور تم نے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا تھا۔ صرف دخوکے اعتبار سے طباء کے لیے کوئی اتنا مشکل صیغہ تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آسکیں۔ یہ امر کا صیغہ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نفس ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا۔

بلکہ ایک آیت میں تو تم مرتبتہ تقویٰ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

**﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَخْسَنُوا﴾** (المائدہ: ۹۳)

[جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گزہ نہیں جو وہ کھا چکے، اب آئندہ کے پرہیز گار ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر پرہیز گار ہوئے اور ایمان لائے پھر پرہیز گار ہوئے اور نیک کی اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے]

کاش! ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھتے اور تقویٰ اختیار کرنے کا ارادہ کر لیتے۔

## تقویٰ کے فوائد و ثمرات

آئیے! قرآن مجید کی نظر میں دیکھیں کہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟

### (۱) ... تکفیر سیئات:

مشق بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بہت سی جدی معاف فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

**وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ (العلق: ۵)**

(اور جو متقیٰ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمادیں گے)

سبحان اللہ! یہ کتنے بڑے اجر ہے! انسان ہونے کے ناتے!!! اگر کوئی کوتا ہی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرمادیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ چھوٹا پچھہ میں سے محبت رکھتا ہے، وہ ماں کے بغیر کہیں نہیں جاتا، اسے کوئی اشہرے تو وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے، تھوڑی دیر تک وہ ماں کا چہرہ نہ دیکھے تو روتا ہے، ماں پیچھے بھی ہٹائے تو ماں سے پشتا ہے، ماں بھی بھتی ہے کہ یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب اگر بالفرض کبھی وہ چھوٹا سا پچھہ کسی وقت اپنی ماں کے چہرے پر تھپڑا ہی لگادے تو یہ تھپڑ لگانا جو ایک قابل سزا جرم تھا، اس پر ماں اسے سزا نہیں دیتی بلکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم لیتی ہے، وہ بھتی ہے کہ یہ نادان اور نا سمجھے ہے، وہ اسے پچے کی نا سمجھ کر جلدی معاف کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح متقیٰ انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض والقدر بمقاضائے شریعت وہ کبھی گناہ کا مرتكب بھی ہو بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نادان سمجھ کر جلدی معاف فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ اس کی لائف ہسٹری بتائی ہے کہ یہ احتیاط بر تا ہے مگر اب اس سے کوتا ہی ہو گئی ہے، چلو میں اب اسے معاف کر دیتا ہوں۔

اگر خاوند کو بیوی بڑی پیاری ہو تو اس کی چھوٹی موٹی غلطی وہ سنتا ہی نہیں ہے۔

ماں بتانا چاہے کہ تیری بیوی کی غلطی ہے یا بہن بتانا چاہے کہ تیری بیوی کی یہ غلطی ہے تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ غلطی ہوتی ہے لیکن محبت کی وجہ سے وہ چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح متقیٰ انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت وہ غلطی کر بھی بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے بڑے ملک چھوٹے ملکوں کے قرضے معاف کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت بھی ان گناہوں کے قرضے کو معاف کر کے سروں سے بوجھ کو ختم کر دیتے ہیں۔

### (۲) .... اعظم اجر:

تقویٰ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیٰ بندے کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

﴿وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا﴾ (الطلاق: ۵)

[اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاد دیتے ہیں]

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

⦿ دیکھیں سیزن ٹھماڑ میں عام طور پر دو چار روپے کلو بکتا ہے، لیکن کئی مرتبہ سال میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ عام دستیاب نہیں ہوتے۔ پچھلے سال ہم نے نا کہ یہ سوروپے فی کلو کے حساب سے بکتا رہا ہے، ہے تو ٹھماڑ مگر قیمت بڑھ گئی۔ تو یوں سمجھیے کہ متقیٰ انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر Off season vegetables (غیر موسمی بزری) کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔

● بعض اوقات آپ کو ایک کپڑا دس روپے گز ملے گا اور دوسرا کپڑا آپ کو پانچ سو روپے گز ملے گا، یہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے، اس سے بھی بدن ڈھانپا جاسکتا ہے اور اس سے بھی بدن ڈھانپا جاسکتا ہے لیکن کوئی کافر ق ہے آج لوگ زیادہ قیمت دے کر اعلیٰ کوائی کی چیز خریدتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیسے کی پرداہ نہ کرو! مجھے اسی چیز چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی بندے کے اخلاص والے محتاج عمل کو زیادہ ریٹ دے کر قبول فرمایا کرتے ہیں۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ”متقیٰ آدمی کی دور رکعت، غیر متقیٰ آدمی کی ایک ہزار رکعت پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔“

● ایک من مٹی بھی ایک من ہوتی ہے، ایک من لوہا بھی ایک من ہوتا ہے اور ایک من سونا بھی ایک من ہی ہوتا ہے۔ اس ایک من مٹی کی قیمت اور ہے، ایک من لوہے کی قیمت اور ہے اور ایک من سونے کی قیمت اور ہے۔ فاسق و فاجر لوگ، عام لوگ اور متقیٰ لوگ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن جو فتن و فجور کی زندگی گزارنے والا ہو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مٹی کا بھاؤ لگا کیں، جو ہم جیسے عام لوگ ہوں، ان پر لوہے کا بھاؤ لگا کیں اور اگر کوئی متقیٰ اور پرہیزگار ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ لگا دیں۔

● اگر آپ کسی بنس میں کوئیں کہ آپ اپنی چیز کو باہر بھیج دیں، وہاں ریٹ زیادہ لگے گا تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے اپنے چاول وغیرہ ایکسپورٹ کرے گا۔ اس کوپتہ ہے کہ یہاں چاول کا معقول ریٹ نہیں ملتا، البتہ باہر چلے گئے تو شاید دو گناہ ریٹ مل جائے گا۔ جس طرح ایک بنس میں دو گناہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مومن بندے کے اعمال پر بھی اس کوئی گناہ بڑھا کر ریٹ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ایکسپورٹ مارکیٹ کے مطابق بنائیں تاکہ ڈبل ریٹ ملے۔

● موٹی سی بات ہے کہ لوگ آٹھ گھنٹے دفتر میں کام کرتے ہیں، کوئی تمن ہزار لے

کر آتا ہے اور کوئی تیس ہزار لے کر آتا ہے۔ کار و باری حضرات ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ لے کے آتے ہوں۔ وقت ایک جیسا ہے مگر اجرت مختلف ہوتی ہے۔ مقنی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ بھی عمل تو عام آدمی کی طرح ہی کرتا ہے مگر اس کے تقویٰ کی بنابر الدرس العزت اس کے عمل پر اس کو بہت بڑا جر عطا فرمادیتے ہیں۔

### (۳).....اعطاۓ فرقان:

تقویٰ کی بنابر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نور عطا فرمادیتا ہے۔ اس کو نور فراست کہہ لیجئے۔ قرآن مجید کی زبان میں اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ فُرْقَانًا ﴾

[اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرقان عطا فرمادیتا ہے] یہ ایک نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو کھوئے اور کھرے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت فارقة یعنی فرق بین الحق والباطل کی نعمت عطا فرمادیتے ہیں۔ اسے اچھے اور بے کی فواراً تمیز ہو جاتی ہے۔ یہ نعمت اللہ والوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا:

إِنَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِنْوَارَ اللَّهِ

(مومن کی فراست سے ڈرو! وہ الدرس العزت کے نور سے دیکھتا ہے) کہ فراست مومن نہ بڑی عجیب نعمت ہے۔ اس امت کے اولیاء کو کثرت سے یہ نور فراست عطا ہوا۔ اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

### ولادت سے پہلے بیٹی کی خبر:

سیدنا صدیق اکبرؑ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کو بلا یا۔ فرمایا کہ میری یہ جائیداد اپنے دو بھائیوں میں اور دو بہنوں میں تقسیم

کردیں۔ انہوں نے عرض کیا: وہ کیسے؟ میری تو ایک بہن ہے۔ فرمایا، نہیں، تمہاری والدہ امید سے ہے اور میرے وجد ان نے مجھے بتایا ہے کہ اب مجھہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس کو بھی شہر کیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو بیٹی عطا فرمائی اور ان کی بات سو فیصد صحیح نکلی۔ یہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں القافرہ دیتے ہیں۔

### خواب سننے بغیر تعبیر:

البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے خواب میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیدار کیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے پیچھے پڑھی۔ پھر نماز کے بعد نبی اکرم ﷺ نمازوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں ایک عورت آئی اور اس نے کھجوروں کا ایک بھرا ہوا تھال پیش کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس میں سے دو کھجوریں لے کر حضرت علیؓ کو کھانے کے لیے دیں۔ جب انہوں نے وہ کھجوریں کھائیں تو انہیں بڑا مزہ آیا۔ اسی دوران ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں خواب دیکھنے کا بھی بڑا مزہ آیا۔ ایک تو محظوظ نمازوں کا دیدار ہوا، دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھی اور تیسرا ان کے ہاتھوں سے کھجوریں کھائیں۔

حضرت علیؓ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، یہ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے نماز میں وہی دوسریں پڑھیں جو خواب میں نبی علیہ السلام نے نماز میں پڑھی تھیں۔ حضرت علیؓ بڑے حیران ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ ایک عورت نے امیر المؤمنین کی طرف کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

اس میں سے دو کھجور میں اٹھائیں اور حضرت علیؓ کو کھانے کے لیے دیں۔ جب انہوں نے کھجور میں کھا میں تو ان کا دل بڑا خوش ہوا۔ دو کھجور میں کھانے کے بعد انہوں نے کہا امیر المؤمنین! مجھے اور بھی دیجیے۔ اس بات پر حضرت عمرؓ مسکرائے اور فرمانے لگے:

اگر آپ کو خواب میں نبی اکرم ﷺ نے اور بھی دی ہوتیں تو میں اور بھی عطا کر دیتا۔ یہ نور فراست ہوتا ہے جو تقویٰ کی بنا پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ چیز آج زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔

### بد نظری کافوری اور اک:

ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنیؑ بیٹھے تھے۔ ایک صحبان کی مجلس میں حاضر ہوئے ان کی نظر راستے میں کہیں غیر محروم پر پڑ گئی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا۔ ”لوگوں کو کیا ہو گیا، ہماری محفل میں بے مہابہ چلے آتے ہیں اور انکی نگاہوں سے زنا نہ پکتا ہے۔“

وہ یہ بات سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے۔ کیا آپ بھی وحی اترتی ہے؟ فرمایا: نہیں یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فراست ہے جو مومن کو عطا کر دی جاتی ہے۔

### فراست مومن کا مطلب:

جنید بغدادی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے جب بھی پہنچا ہوا تھا اور عمما مسجدی پاندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بظاہر منور نظر آرہا تھا۔ گورا، چٹا، خوبصورت تھا، وہ آکر کہنے لگا۔ حضرت انجھے آپ ایک حدیث کا مطلب سمجھا دیجیے۔

پوچھا، کوئی حدیث؟ اس نے کہا، حدیث یہ ہے۔

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

(مؤمن کی فراست سے ڈر کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے)

حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا اونصرانی کے بیٹے! اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا! یہ سن کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کہنے لگا، واقعی میں نصرانی ہوں، میں اس لیے آیا تھا کہ میں پہلے آپ سے اس کا معنی پوچھوں گا اور پھر میں آپ کو لوگوں میں رسوا کروں گا کہ آپ اتنے بڑے شیخ بنے پھرتے ہیں لیکن اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک نعمت ہے جو مومن بندے کے دل میں عطا ہوتی ہے۔ لہذا اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اند اکبر!!!

### تمہارے گھر میں سور کیسے.....!!!

حضرت خواجہ محمد عبدالمالک صدیقی صلی اللہ علیہ وسالم بہت محاط بزرگ تھے۔ ان کی زندگی میں بڑا تقویٰ تھا۔ اگر کوئی آدمی ان کو کوئی مشتبہ مال کی چیز کھانے کے لیے دیتا تھا تو آپ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت کے لیے مشتبہ مال سے بہت زیادہ کھانا بنوایا، تقریباً پچیس تیس ڈشز بنوائیں۔ اس کے علاوہ دال بالکل حلال مال سے بنوائی۔ جب حضرت دستر خوان پر تشریف لائے تو فقط دال کے ساتھ روٹی کھا کر اٹھ گئے، باقی کسی اور چیز کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔

حضرت مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسالم کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قادری صلی اللہ علیہ وسالم نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسالم تبلیغی سفر پر تھے۔ اس دوران حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی صلی اللہ علیہ وسالم اس علاقہ میں کسی پروگرام کیلئے تشریف لائے اور واپسی پر اچانک چکوال تشریف لے آئے۔ جب حضرت اچانک تشریف

لائے تو میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ میں نے گھر میں والدہ صاحبہ کو آکر بتایا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کھانا بنائے۔ میں نے حضرت گو بھایا، پانی پلایا اور جب دستر خوان لگایا تو حضرت نے دستر خوان کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر فرمائے لگے۔ ”تمہارے گھر میں سور کیسے داخل ہو گیا؟“ فرماتے ہیں کہ میں فوراً واپس والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور ان سے کہا: امی جان حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے اور مجھے غصے سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہو گیا۔ امی جان سر پکڑ کر کہنے لگیں۔ ”اوہ! غلطی میری ہے۔ یہ میرے ہمسائے والی عورت مدتیں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ جب کبھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو اس دفعہ کھانا میں بنائے دوں گی، اور مجھے خیال ہی نہ رہا کہ حضرت محتاط غذا کھاتے ہیں۔ میں نے پڑوسن کا حق سمجھ کر اسے ہاں کر دی تھی، لہذا یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں پڑوس کے گھر کا کھانا ہے۔“ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے خاوند کا مال تو حلال تھا مگر اس نے اپنی رقم کو سود والے اکاؤنٹ میں رکھا تھا، لہذا وہ بھی حرام بن گیا۔

### چالیس دن میں القائے نسبت:

امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ کا نور فراست بہت مشہور تھا۔ فرماتے تھے کہ چالیس دن تک میرے پاس رہو اور جو چیز کھانے کے لیے میں بتاؤں وہ کھاؤ۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ان چالیس دنوں میں تمہارے سینے کو نسبت کے نور سے روشن فرمادیں گے۔ سبحان اللہ۔

### انگوروں سے مردوں کی بدبو:

حضرت مرزا مظہر جان جاتا حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ کے پاس ایک مرتبہ کوئی مرید آیا اور اس

نے کچھ انگور کھانے کے لیے پیش کیے۔ حضرت اس میں سے کچھ انگور توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تو واپس رکھ دیے، فرمایا: مجھے ان میں سے مردوں کی بوآ رہی ہے۔ اس نے کہا: حضرت بازار سے لایا ہوں، لیکن حضرت نے واپس کر دیے۔ حضرت کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر تجسس پیدا ہوا اور اس کی تحقیق کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا: جی آپ نے یہ انگور کھاں سے لیے؟ اس نے کہا: ایک دیہاتی بندے کا انگوروں کا باعث ہے۔ وہ لاتا ہے اور میں اس سے خریدتا ہوں۔ اس نے کہا۔ مجھے اس کا ایڈر لیں بتاؤ! اس نے اس کا پتہ دے دیا۔ جب اس آدمی نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس شخص نے ایک پرانے قبرستان کی زمین ہموار کر کے وہاں انگوروں کی بٹیں لگائی ہوئی تھیں۔

### یہ علم غیب نہیں:

عزیز سالکین! یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، اپنادماخ بالکل صاف رکھنا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو علم غیب بن گیا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک نور فرات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے بندوں کو ایسی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچانے کے لیے فہم سليم عطا کر دی جاتی ہے، ان کے دل میں القا کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کو نور فرات، فرقان، وجدان، قوت فارقه اور فرات مومنانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ جو بندہ پولیس کے محلہ میں تمیں چالیس سال کو توال رہے۔ پھر اسکے سامنے سے پانچ بندے گزریں تو ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان میں سے یہ شیئی آدمی ہے۔ حالانکہ اس کو تو نہیں پتہ ہوتا لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ نشر کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ ہوتا ہے اور اس تجربہ کی وجہ سے اس کو پہچان حاصل ہو جاتی ہے، ہم نہیں پہچان

سکتے مگر کوتوال پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی تجربے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متین بندوں کو بھی ایسی چیزیں سمجھاو دیتے ہیں۔

### (۲) .... اخراج من الضيق:

انسان کو تقویٰ کی وجہ سے اخراج من الضيق کا شرہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے شکلی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يُئْتِي اللَّهَ يَعْجَلُ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (الطلاق: ۲)

(اور جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں)

### حاسدین کے خلاف خدائی مدد:

کچھ حاسدین نے امام اعظم ابوحنیفہ رض پر بہتان لگانے کی کوشش کی۔ حاسد تو دنیا میں ہوتے ہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں فضل و کمال ہو گا وہاں آپ کو بہت زیادہ حاسد ملیں گے۔ چونکہ امام اعظم رض کو فقا ہوت میں بلند مقام حاصل تھا۔ اس لیے آپ کو باقی ائمہ کے حاسد اتنے نہیں ملیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، وہ کسی اور پرالزام تراشی نہیں کریں لے۔ آپ کبھی ان کی زبان سے امام شافعی رض، امام مالک رض، اور امام احمد بن حنبل رض کا نام نہیں سنیں گے۔ ان کے تمام اعتراضات بالآخر امام اعظم رض پر ہوتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو عطا کیا اس لیے ان کے حاسدین بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اشارا،

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق: ۵)

حاسدین نے امام اعظم رض پر بہتان لگانے کی کوشش اس طرح کی کہ ایک عورت جس کے اخلاقی حالات اچھے نہیں تھے، اس کو مال پیسہ دینے کا لائج دیا اور کہا

کہ تم اس نعمان (امام اعظم) کو کسی طرح اپنے گھر میں بلاو، ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ وہ پوری صورت حال کو سمجھنہ پائی۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو اتنا بڑا کام نہیں ہے میں کوئی بہانہ کر لوں گی۔

جب امام اعظم ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آنے لگے تو وہ عورت انتظار میں تھی۔ وہ یکدم دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند آخری لمحات میں ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرم اکار اس کی وصیت سن کر لکھ دیجیے۔ اب اگر ایسی صورت حال اچانک پیش آجائے تو آدمی اس کو جس سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت جسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاسدین پہلے سے موجود تھے، انہوں نے ان کو بھی پکڑ لیا اور اس عورت کو بھی پکڑ لیا اور کہا: دیکھو! یہ اتنے بڑے عالم بننے پھرتے ہیں اور رات کے وقت ابھی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات حاکم وقت تک پہنچا دی۔ حاکم وقت نے کہا کہ ان دونوں کو جیل میں بند کر دو، میں صبح اٹھ کر معاملہ کی تحقیق کروں گا۔ اس طرح ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔

حضرت باوضو تھے۔ چنانچہ آپ نے وہیں اپنا کپڑا بچایا اور لفل پڑھنا شروع کر دیے۔ جب کافی دیر تک لفل پڑھتے رہے تو عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، جوانی کی عمر میں ہوں، اندھیرا بھی ہے اور تنہائی بھی ہے، لیکن یہ شخص اتنا نیک ہے کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کر رہا۔ چنانچہ اب اس کو احساس ہوا کہ اتنے نیک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ بالآخر اس نے احساس نہادت کے ساتھ سوچا کہ میں ان کے سامنے حقیقت کھول دوں۔

چنانچہ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگی۔ جی میں آپ کے سامنے اس سارے ذرا مے کی حقیقت کھولنا چاہتی ہوں۔ فرمایا: بتاؤ! وہ کہنے لگی کہ کچھ لوگوں نے

مجھے اس، اس طرح ورغلایا تھا، میں نے ان کے کہنے پر یہ کوتاہی کر لی، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہذا اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔

حضرت نے فرمایا: اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو مجھے میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور تم اس پر عمل کرو! اس نے پوچھا: کونسی ترکیب؟ حضرت فرمایا کہ تم جیل کے پھریدار کے پاس چلی جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے یہاں اچانک کپڑا کر پہنچا دیا گیا ہے اور میرے گھر میں کچھ تقاضے تھے، میں چاہتی ہوں کہ میں جا کر وہ تقاضے پورے کر لوں اس لیے تو میرے ساتھ گھر تک چل! میں وہ تقاضے پورا کر کے تیرے ساتھ واپس آ جاؤں گی، امید ہے کہ وہ تم پر اعتماد کر لے گا۔ اس کے بعد تم پھریدار کے ساتھ میرے گھر چلی جانا اور وہاں میری بیوی کو پوری بات سنادیں، تم اپنا بر قدم میری بیوی کے حوالے کر دینا اور اسے کہنا کہ وہ اس سپاہی کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اس نے اس ترکیب پر عمل کیا اور کچھ دیر بعد امام صاحب کی بیوی ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔

اگلے دن حاکم وقت نے دربار لگای۔ وہاں حاصلہ دین کا ایک جم غیر تھا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اس مصیبت سے کیسے نکلتے ہیں؟ حاکم وقت نے آکر کہا: ”نعمان! تم اتنے بڑے عالم ہو کہ لوگ تمہیں جبالِ العلم سمجھتے ہیں، تمہارا یہ عمل ہے کہ تم رات کے وقت تہائی میں ایک اجنبیہ کے ساتھ ہوتے ہو۔“

آپ نے فرمایا: نہیں میں تو اجنبیہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ تو ایک اجنبیہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اجنبیہ تو نہیں ہے، آپ میرے سر کو بلا بیجیے اور ان سے کہیے کہ آکر اس کو پہچانے کہ یہ کون ہے؟ چنانچہ جب سر آئے اور اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اتنا عرصہ پہلے امام صاحب کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا۔ اللہ اکبر!!! اشتعلی بندے کو حاصلہ دین اور

دشمنوں کی ایسی چالوں سے بھی باہر نکال دیتے ہیں، جہاں سے انسان کو سمجھہ ہی نہیں آتی کہ وہ کیسے نکلے، مقی بندے کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔

### نامساعد حالات میں خروج کاراستہ:

معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے انسان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں۔ اس طرح ماں باپ کی راتیں جس بے قراری میں گزرتی ہیں وہ کسی دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتے۔ جہاں ماں باپ کا ایک ہی جوان العمر بیٹا پڑھ کر فارغ ہوا ہو اور دھکے کھاتے ہوئے دوسال گزر جائیں اور روزگار کا سبب نہ بن رہا ہو تو جب وہ شام کو خالی واپس آتا ہے تو ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے! بعض اوقات آدمی کاروبار شروع کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پیسے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دیتے ہی نہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ ایسے موقع پر شیطان بندے کو بہکاتا ہے اور اس کے دل میں وسو سے ذاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے۔ او خدا کے بندو! کوئی کاروبار نہیں باندھتا، رزق کا معاملہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

**﴿يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (الشوریٰ ۱۲)**

ہمارے ان مسائل کا حل کہیں اور ہوتا ہے اور ہم کہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے پریشانی کم ہوتی ہے اور عملیات والے الٹا اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ جب انسان کو دروازہ بند نظر آئے، چاروں طرف دیوار نظر آئے، کچھ سمجھہ میں نہ آئے کہ میں ان حالات میں کام کروں، اس کو ضيق اور تنگی کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت مقی بندوں کے لیے ایسے

بند حالات میں بھی دروازہ نکال دیتے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (الطلاق: ۲)

[اور جو انسان تقویٰ اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنادیں گے]

مخرج کو انگریزی میں Exit (اگزٹ) کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو مشکل حالات میں ایگزٹ کا سائز دکھادیتے ہیں۔ آج کل بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوتی ہیں۔ اگر وہاں کسی وجہ سے روشنی بند ہو جائے تو کچھ روشنیاں جل جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ باہر جانے کا راستہ ادھر ہے۔ اس راستے کو ایگزٹ ڈور کہتے ہیں۔ بس یونہی سمجھ لیں کہ جو انسان متقی ہوتا ہے، اگر وہ کبھی حالات کی پریشانی اور مصیبت میں کسی وجہ سے گھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایگزٹ کی بیان جلا کر نکلنے کا راستہ دکھادیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا﴾ (الطلاق: ۳)

[اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے]

چنانچہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متقی لوگوں کے کام خود بخود سنوار پتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی طاقت اس بندے کے کاموں کو خود بخود سنوارتی جاتی ہے۔ ان کے کاموں میں مدد الہی شامل ہوتی ہے۔

## (۵) ... رزق بے حساب:

اللہ تعالیٰ متقی آدمی کو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اسے ایسی طرف سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متقی آدمی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳)

[اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا]

## نولوں سے بھر اسوسٹ کیس:

حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے خانیوال میں مسجد بنوائی۔ یہ وہ مسجد پورے شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ لوگوں نے اس مسجد کا نام ”بے چندہ مسجد“ رکھا۔ کیونکہ حضرت نے کبھی اس مسجد کے بیسے چندہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ مسجد بہت ہی عالیشان ہے۔

وائدہ صاحبہ نے یہ بات سنائی (کتابوں میں بھی مرقوم ہے) کہ ایک مرتبہ حضرت کام کرنے والے لوگوں کی تخفوا میں نہ دے پائے پھر اللہ تعالیٰ بھی کام کرنے والے، صابر، شاکر، محبت کرنے والے اور مجاہدے کرنے والے دے دیتے ہیں۔ حضرت نے مزدوروں اور مستریوں سے یہ طے کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے اور اگر پاس نہیں ہو گا تو آپ بھی مانگنا اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ چنانچہ اس بات کی بنابر لوگ کام کرتے تھے۔ عید الفطر کی آمد آمد تھی۔ اب حضرت متفکر ہوئے کہ ان حضرات کی چند ماہ سے ہمیٹ رکی ہوئی ہے، آخر عید کے موقع پر بیوی بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم ن کی ہمیٹ کر دیتے۔ چنانچہ آپ دور کعت پڑھتے اور پھر دعا مانگتے، پھر دور کعت پڑھتے پھر دعا مانگتے۔

ایک دفعہ ایک آدمی حضرت سے ملنے آیا، وہ جاتے ہوئے کہنے لگا، حضرت! میں یہ سوت کیس آپ کے لیے ہدیہ لا یا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: بہت اچھا! آپ یہ سوت کیس اس پچے کو دے دیں تاکہ یہ گھر پہنچا دے۔ اس نے وہ سوت کیس پچے کو دے دیا اور اس نے اسے گھر پہنچا دیا۔ جب وہ گھر لے کر پہنچا تو اس وقت والدہ صاحبہ

عورتوں میں بات چیت کرنے میں معروف تھیں۔ لڑکے نے کہا: حضرت جی نے یہ سوت کیس بھیجا ہے، اماں جی نے کہا: اچھا اس کو یہاں اوپر کر کے رکھ دو! چنانچہ اس نے اوپر کر کے رکھ دیا۔ تین دنوں مگر بعد حضرتؐ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور والدہ صاحبہ نے کہا کہ آپ نے ایک سوت کیس بھجوایا تھا، وہ کسی کی امانت ہے یا اپنے ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا: وہ سوت کیس کسی نے ہدیہ کے طور پر دیا تھا اور میں نے وہ آپ کی طرف بھجوادیا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا: ذرا سے اندر سے تو دیکھوں کہ کیسا بنا ہوا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ وہ کہنے لگیں: کیا یہ لو ہے کا بنا ہوا ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ سوت کیس لو ہے کا تو بنا ہوا نہیں ہوتا۔ پوچھا: پھر اس میں کیا ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا: اسے کھول کر دیکھ لو۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اسے کھولا تو ہم حیران ہوئے کہ پورے کا پورا سوت کیس ہزار ہزار روپے کے نوٹوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ! دینے والا بھی اتنا مخلص تھا کہ اس نے احسان بھی نہیں جتنا یا اور لینے والے بھی ایسے مستغفی۔ ۔ ۔ ۔

### پلوں سے رزق کا انتظام:

ایک صحابیؓ تھا جس کے لیے دیرانے میں گئے۔ ابھی وہ قضاۓ حاجت سے فارغ ہو رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ زمین میں چوہے کا سوراخ تھا، اس سوراخ کو بل کہتے ہیں۔ اس مل میں سے ایک چوہا نکلا، اس کے منہ میں ایک دینار تھا۔ اس نے وہ دینار باہر ہی چھوڑ دیا، پھر وہ اندر گیا اور دوسرا دینار لے کر آیا، پھر تیسرا دینار، جب وہ فارغ ہو کر اٹھے تو وہ سولہ دینار باہر لا چکا تھا۔ اس صحابیؓ نے وہ دینار اٹھا لیے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک قابل تحسین عادت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی ان کو کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ اس کے بارے میں نبی ﷺ سے پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے

وہ دینا رلا کر نبی مسیح کی خدمت میں پیش کر دیے اور پوچھا۔ اے اللہ کے محبوب مسیح! مجھے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب بتائیے کہ میں ان دیناروں کا کیا کروں؟ نبی مسیح نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصل میں تمہارا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پہنچنے کا بندوقست کر دیا، اب تم اسے استعمال میں لے آؤ۔

جب کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی ایمانی کیفیت کیا تھی! ان لوگوں کو یہوں سے رزق ملتا تھا۔ اور آج کل ہماری کیفیت یہ ہے کہ سارے صینے میں جو کماتے ہیں وہ یہوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ یہ بجل کابل یہ ٹیلیفون کابل ۔ یہ ان شورنس کابل ۔ یہ گیس کابل ۔ ۔ یہوں ساری تنخواہی یہوں میں چلی جاتی ہے۔

### والدین کی خدمت کا انعام:

ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی۔ جب والدین فوت ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے کہا تم نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اب تجھے انعام ملے گا۔ فلاں پھر کے نیچے سو دینار پڑے ہیں جا کر اٹھا لو۔ وہ نوجوان سمجھدار تھا، اس نے پوچھا: کیا ان میں برکت بھی ہو گئی؟ اس نے جواب دیا، ان میں برکت نہیں ہو گئی، اس نے کہا: پھر میں نہیں اٹھاتا۔ جب صبح کو اٹھ کر بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی: تمہیک ہے تم نہ لینا لیکن جا کر دیکھو تو سہی کہ دینار پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا: جب لیئے نہیں تو پھر میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دوسری رات اسے پھر خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ پر دس دینار پڑے ہیں، اٹھا لو! اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا ان میں برکت ہو گی، جواب ملا کہ برکت نہیں ہو گی۔ اس نے کہا: میں یہ دس دینار بھی نہیں لیتا۔ جب بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سو دینار تو چھوڑ دیے تھے، اب دس رہ گئے ہیں، وہ تو اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا کہ جب ان

میں برکت نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں لیتا۔ تیری رات پھر اسی طرح خواب آیا، اسے کہا گیا کہ تو نے اپنے والدین کو خدمت کر کے خوش کر دیا تھا، اس کے صدر میں ہم آپ کو ایک دینار دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اس میں برکت ہوگی جواب ملا، ہال ہوگی۔ جب وہ نوجوان صبح کو بیدار ہوا تو اس نے اس پتھر کے نیچے سے ایک دینار انداھا لیا۔ واپسی پر اس کے دل میں خوشی کے جذبات تھے، اس نے سوچا کہ آج میں مجھلی لے جاتا ہوں، اس کے کباب بناؤ کر کھائیں گے۔ چنانچہ جب وہ مجھلی لے کر گھر آیا اور بیوی نے اسے کھانا، تو اس کے اندر سے ایک ایسا قسم تھی، ہیر انکلا کہ جب اسے بازار میں جا کر بیچا تو اس بندے کی پوری زندگی کا خرچ نکل آیا۔

**﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ﴾ (الطلاق: ۳)**

### (۶) ... معیت الہی:

تقویٰ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، ارشاد فرمایا:

**﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾**

[اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی بندوں کے ساتھ ہے]

آج لوگ کہتے ہیں: جی وہ وزیر ہمارے ساتھ ہے، وہ امیر ہمارے ساتھ ہے، ان کو وزیر اور امیر کے ساتھ ہونے کا بڑا مان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں۔ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔

### (۷) ..... محبت الہی:

متقی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ حسن کی بنا پر اچھے لگتے

ہیں، کچھ ذہانت کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، کچھ دینداری کی بنیاد پر اچھے لگتے ہیں، اسی طرح تقویٰ وہ صفت ہے کہ جس صفت کی وجہ سے مومن اپنے پروردگار کو اچھا لگتا ہے۔ ایسے بدے پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

**﴿وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِّيِّينَ﴾**

[اور بے شک اللہ تعالیٰ متقيوں سے محبت فرماتے ہیں]

#### (۸) .... اصلاح احوال:

اللہ تعالیٰ متqi بندے کے احوال خود بخود سنوار دیتے ہیں۔ لوگ آکر کہتے ہیں: حضرت صاحب! حالات کی بہتری کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ لوگ دل کی باتیں پیر سے کرتے ہیں یا حکیم سے۔ پیر سے روحانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں اور حکیم سے جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں۔ ان کے پاس وہ آکر دل کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتاویں کہ گھر میں سکون ہو جائے۔ ایک نسخہ آپ کو بھی بتادیتے ہیں، یہ حالات کو سنوارنے کا قرآنی نسخہ ہے۔ وہ کونسا؟ تقویٰ! اختیار کر لیجیے! اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو خود بخود سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوْلُوا فَوْلُوا فَوْلًا سَدِيدًا إِذْ صَلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (الازاب: ۷۲-۷۳)**

[اے ایمان والو! اللہ سے ڈراؤ اور اچھی بات کہو! اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے]

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اعمال سے مراد انسان کے حالات ہیں۔

#### (۹) .... اعداء سے حفاظت:

اللہ رب العزت متقی بندوں کی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمادیتے ہیں۔

ویکھیں! بندوں کے کئی دشمن ہوتے ہیں۔ کچھ کھلے دشمن ہوتے ہیں اور کچھ چھپے ہوئے کون دشمن ہے؟ ... ہم نہیں جانتے۔ کچھ بندوں کے دلوں میں حسد اور کینہ ہوتا ہے۔ اس حسد اور کینہ کی وجہ سے وہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، وہ انسانوں وہ اپنے بن کر غیروں سے بڑھ کر بندے کے لیے فقحان دہ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں بندے کے لیے شیطان ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر کیا پتہ کہ اس کے اندر کیا کھوٹ ہے؟ ہم یقیناً نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں سے بخوبی واقف ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ﴾ (النساء: ۲۵)

[اور اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو]

جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جی خالہ نے کوئی عمل کروادیا، او جی! اپھو پھی کی بیٹی کا ہم نے رشتہ نہیں لیا تھا، اس پھوپھی نے کار و بار بندھوادیا ہے کیونکہ اس کا عملیات والوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی غلط ذکر کو سلے اور باتیں ہیں، یہ باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا ہے..... کوئی کہتا ہے: مجھے بیوی نے پریشان کر رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے پڑوسیوں نے پریشان کر رکھا ہے اور خدا کے بندو! کسی نے کسی کو پریشان نہیں کر رکھا، ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کر رکھا ہے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں تھیک ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھل جائیں۔ اپنے اصل دشمن کو پہچانیے کہ دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔

پرانے وقتوں میں کسان بیلوں سے ہل چلاتے تھے۔ ایک کسان ہل چلا رہا تھا۔ اس نے اچانک اندر والے بیل کو مارنا شروع کر دیا۔ قریب ہی ایک اللہ والے کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا: جی اس بے زبان جانور کو اتنا کیوں ہے ہو؟ اس

نے جواب دیا کہ یہ پاڑا مار گیا ہے۔۔ پاڑا مارنا کے کہتے ہیں؟ جب وہ بیل  
چلاتے تھے تو اندر والا بیل سستی کرتا تھا، اسی سستی کی وجہ سے بیل زمین کا ایک بلکڑا  
چھوڑ کر آگے پلے جاتے ہیں، اس بلکڑے پر بیل نہیں چلتا، اس کو پاڑا مارنا کہتے  
ہیں۔ جب اُسی صورت پیش آجائے تو کسان باہروا لے بیل کو پکچھنہیں کہتا، البتہ اندر  
وا لے کی پٹلی کر دیتا ہے۔۔۔ جب اللہ وا لے نے پوچھا کہ اندر وا لے بیل کو کیوں مار  
رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اسی آندھی (اندر وا لے) کی وجہ سے تو یہ پاڑا ہوتا ہے،  
اس لیے میں مار رہا ہوں۔

بالکل صحیح بات ہے کہ گناہوں کا پاڑا ہمیشہ آندھی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے  
اندر کا نفس جب گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ بندے کو بتاہ کر دیتا ہے۔ اس  
لیے جب شیطان کے مکر کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ لَكَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ۲۷)

[بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے]

اور جہاں انسان کے نفس کا تذکرہ آیا، وہاں فرمایا:

﴿إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ﴾ (الیوسف: ۲۸)

شیطان کے مکر پر اللہ تعالیٰ نے ضعیف کا لفظ ارشاد فرمایا اور نفس کے مکر کے لیے  
عظیم کا لفظ ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دراصل ساری مصیبت نفس کی طرف سے ہوتی  
ہے۔ اسی کو کہتے ہیں: ”مگر کا بھیدی لنکاڑھائے“، ہمارا نفس مگر کا بھیدی ہے، یہ لنکا  
ڑھا دیتا ہے اور بندے کو گناہوں میں الجھاد دیتا ہے۔ تو ہماری پریشانیوں کی بنیاد  
دوسرے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ ارحم اپنے اعمال کو تھیک کر لیں گے تو  
اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمادیں گے۔ پھر دشمنوں  
سے حفاظت ہوگی، چاہے وہ دشمن مگر کے ہوں یا دفتر کے۔ حقیقتی دشمن میں بھی دشمن

ہوتے ہیں، کانج میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔

ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ پیالے کے اندر بہت سارے جھینگے زندہ پڑے ہوئے تھے، ان کی عجیب و غریب شکل ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کے ایک بندے سے کہا کہ یہ جھینگے پیالے سے نکل جائیں گے اور لوگوں کو پریشان کریں گے۔ اس نے کہا: جی فکر نہ کریں، میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کو کھلے برتن میں ڈال دیا جائے تو جو اوپر چڑھ کر نکلا چاہے تو باقی سارے مل کر اس کی ناگزیں کھینچتے ہیں۔ اب یہ اوپر تو چڑھ رہے ہیں لیکن کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہی معاملہ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بخت لگا دیتے ہیں، وہ خاندان میں اوپر اٹھنے لگتا ہے اور باقی سارے مل کر اس کی بد تعریفی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی جھینگے والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ کون ہمارے بارے میں کیا تاثرات رکھتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سینے! قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كُيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران ۱۲۰)

[اگر تم اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کے مکر تمہارا باہل بھی بیکا نہیں کر سکتے]

یعنی تمہارے دشمنوں کی تدبیریں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اب اس سے بڑا اونٹیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی؟ آئیے اقرآن مجید کو تھام لیجیے اور اپنے حالات کو سنوار لیجیے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم فرمایا کرتے تھے:

تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو زندگی میں رہے پریشان!

تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام!  
 تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام!  
 غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو  
 فرمایا نہ نہ نہ،  
 - او میرے ماننے والے انسان!  
 - اقراء و رب الاکرم  
 - تو پڑھ قرآن!  
 - تیرا رب کرے گا تیرا اکرام  
 - تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظہرو باطن کو نکھار دے گا۔

### خدائی فوج کا پھرہ:

حضرت خواجہ محمد عبد المالک صد لیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرس تھا۔ وہ دہلی سے اٹھ رہا میل دور غازی آباد میں واقع تھا۔ وہ کئی ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا مدرس، آج بھی چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے ناظم سے اس عاجز کی کسی نہ کسی ملک میں ملاقات بھی ہو جاتی ہے، وہ حالات ناتے رہتے ہیں۔ الحمد للہ! وہ بھی حضرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس مدرسے کا واقعہ ”تجلیات“ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تقسیم ہند کا وقت آیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔

اس مدرسے کے ایک استاذ سکھوں کی ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک سکھ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا: میاں جی! یہ سکھ کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اسے میاں جی کہتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر سردار جی کہتے ہیں۔ اس نے کہا: میاں جی! کیا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوج بلوائی ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے کہا، ”ہماری بستی کے سکھ تین مرتبہ تکواریں اور دوسرا اسلحے لے کر اس

درستے کے مسلمانوں کو لوٹنے اور مارنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن جب بھی ہم اس کے قریب پہنچتے تھے تو ہمیں فوجی چاروں طرف پھرہ دیتے نظر آتے تھے۔ ”یہ خدائی فوج ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے متّقیٰ بندوں کی دشمنوں سے حفاظت فرمادیتے ہیں۔

**نبی رحمت ﷺ کے دشمنوں کا مکر:**

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف بھی تو دشمنوں نے مکر کیا تھا کیسا مکر؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذْ كَانَ مُكْرِهُمْ لِتَرْوَلْ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ (ابراهیم: ۳۶)

[ان کی مدیریں اسکی تھیں کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے]

مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو تسلی دیتے کہ

﴿مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (الرعد: ۳۲)

[ان سے پہلے والوں نے بھی بڑی مدیریں کی]

﴿فَاتَى اللَّهُ بُنْيَاتِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ (النحل: ۳۶)

[پس اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی بنیادیں اکھیزوں کی]

﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾

[چھت ان کے اوپر آگری]

﴿وَاتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (النحل: ۲۶)

[اور ان پر اسکی طرف سے عذاب آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا]

انہوں نے نبی ﷺ کے خلاف مکر کیا؟..... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے

میرے پیارے!

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الانفال: ۳۰)

[جب ان کافروں نے آپ کے خلاف تدبیریں کیں]

لِيَشْتُوكَ

(کہ آپ کو جس بے جا میں رکھیں)

أُويَقْتُلُوكَ

(یا آپ کو شہید کر دیں)

أُويَخْرُجُوكَ

(یا آپ کو دیس نکالا دے دیں)

انہوں نے یہ تین باتیں سوچی تھیں کہ یا تو آپ کو پکڑ کر اپنا قیدی بنالیں گے، یا شہید کر دیں گے یا وطن سے نکال دیں گے،

وَيَمْكُرُونَ

(اور انہوں نے بھی تدبیریں کیں)

وَيَمْكُرُ اللَّهُ

(اور اللہ نے بھی تدبیر کی)

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

(اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے)

و تمن تدبیریں کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدبیریں چلنے نہیں دیتے۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (آلہ النساء، ۱۳۸)

[اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان تک پہنچ کر اسے نہیں دے گا]

دیکھیں کہ یہاں تاکید کا صبغہ استعمال ہو رہا ہے، یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔

ب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم سمجھئے: جیسے کوئی کہتا ہے کہ میاں! تم اسے

ہاتھ لگا کے دیکھو، تم میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، ان افاظ میں بالکل یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! یہ کافر پہلے میرے ساتھ نہیں گے، پھر یہ تمہارے تک راست پائیں گے۔ یعنی میں خودان کے ساتھ نہ لوں گا۔

ایک دفعہ تو کفار نے مکر نے کی حد کر دی، مکہ کے بھی سب لوگوں کو نکالا، اردو گرد کے لوگوں کو بھی نکالا، راستے کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا، گویا انسانوں کا ایک دریا تھا جس کو لے کر کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی شروع کر دی۔ جب یہودیوں کو خبر پہنچی کہ مکہ والے تو سیاہ کی طرح آ رہے ہیں تو وہ آ کر مسلمانوں کو مشورے دینے لگے:

﴿أَنَّ النَّاسَ قَدْ جَمِعُوا لِكُمْ فَاخْشُوْهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۷۳)

[لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ رہے ہیں، (میاں) کچھ فکر کرو!]  
مگر وہ ایمان والے تھے

﴿وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيْمًا﴾ (الاحزاب: ۲۲)

[اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی]

ان کفار نے آ کر مد نیہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ نبی علیہ الصدّوقة والسلام نے حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورے سے خندق کھو دی۔ اتنے لوگ مقابلے کے لیے آ گئے کہ اس غزوہ کا نام ہی غزوہ احزاب پڑ گیا۔ ان کو اپنی کثرت پہ ناز تھا۔ انہوں نے ایک مہینہ تک محاصرہ کیے رکھا لیکن ان کا کچھ نہ بنا۔ بالآخر ان کے اندر آپس میں تاتفاق پیدا ہو گئی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے واپسی کی راہ لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہوا بھیج دی اور ان کی دیگوں کو الٹ کر رکھ دیا اور ان کے خیسے اکھر گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب واپس چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا ہی عجیب

الفاظ ہیں! فرمائیا:

﴿ وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوْ خَيْرًا ﴾ (الاحزاب ٢٥)

[اللَّهُ تَعَالَى نَزَّلَ لِكُوَافِرْ كَوْنَ كَعْيِضْ وَغَضْبَ كَسَاتِحْ وَأَپْسَ لَوْنَا دِيَا، اَنْ]

کے ملے کچھ بھی نہ پڑا۔

جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تجھے تو نہیں گا بھی نہیں ملا، یہی مفہوم ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کی ایسے مد فرماتے ہیں۔ اس لیے ذر نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو ارشاد فرمایا:

﴿أَنَا أَتُقْرِئُكُمْ بِاللَّهِ﴾

[میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں]

پھر اللہ تعالیٰ نے اینے بندے کی مدد کی؟ نبی علیہ السلام فتحِ مکہ کے وقت

چار ہے ہیں اور فرمائے ہیں:

الحمد لله وحده نصر عبده

یوں التدرب العزت اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو عزتوں کے ساتھ زندگی کا آخری حصہ عطا فرمادیتے ہیں۔

گناہ..... کمزوری کا پیش خیمه:

آج ہم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھتے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر آپ کے اوپر تی ہوئی ہے اور ہر کبیر گناہ اس چادر میں سوراخ کر رہا ہے اور اس سوراخ سے پریشانیاں اور مصیبتیں اتر کر جا رے ساتھ پڑتی رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنی چھتری میں اپنے کروتوں کی وجہ سے

خود سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ متین اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر ہوتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا:

﴿وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَقْتُلُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كُيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران. ۱۲۰)

**چڑیوں سے باز مرادیے:**

تکت اور کثرت کی بات نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصُّابِرِينَ﴾ (البقرة. ۲۳۹)

[کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو شکست ولوادی اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں]

اگر اپنی زبان میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یوں بنے گا کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے باز مرادیے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں تو چڑیوں سے باز مرادیتے ہیں۔

**اسباب کے بغیر فتح و کامرانی:**

لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے فتح دے دی۔ کچھ یہودی تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ مجھے ایک صاحب کعب بن اشرف کا گھر دکھانے کے لیے لے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے اتنا مضبوط گھر بنایا کہ اس کی ایک میز چوڑی مضبوط پتھر کی دیواریں تھیں۔ انہیں دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے

اتنے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان قلعوں کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا کہ یہ ناقابل تحریر قلعے ہیں اور ان کو فتح کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مسلمانوں کے زیر قدم لانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ سنیے قرآن، عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَا وَلِ  
الْحَسْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يُخْرُجُوا وَظَنَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعُوهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ  
اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمْ  
الرُّغْبَ﴾ (الحضر: ۲)

[وہی تو ہے جس نے کفار الہ کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انکو خدا کے عذاب سے بچالیں گے، مگر اندھے ان کو وہاں سے آلیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا]

جب ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب پیدا ہو گیا تو مل بینہ کر مشورہ کرنے لگے، یہ مسلمان جدھر بھی جاتے ہیں یہ اوہر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایمانہ ہو کہ کبھی ہمارے اوپر ہی چڑھ دوڑیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ اپنی چیزوں کو سینٹے گے۔ ان کی اس حالت زار کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يُخْرُجُونَ بِيُوتِهِمْ بِإِيمَانِهِمْ وَأَيَّدُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَاعْتَبِرُوا يَا أَوْلَى  
الْأَبْصَارِ﴾ (الحضر: ۲)

گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بندوں کی مدد کرتا ہوں تو نہتے لوگوں کو بھی

ناقابل تغیر قلعوں کا قائم بنا دیتا ہوں۔ اگر آج بھی ہم من حیث الامہ تقویٰ اختیار کریں تو دنیا کے یہ سب ناقابل تغیر قلعے فتح ہو جائیں گے۔

### ایک سانپ.....تریاق کی شکل میں:

ایک اللہ والے تھے، ایک آدمی ان کا حاسد تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ان اللہ والوں سے بدلہ لوں۔ چنانچہ اس نے دوائی کی شکل میں افیون ان کو دے دی۔ جب انہوں نے وہ دوائی کھائی تو ان پر افیون کا نشہ چڑھ گیا۔ چنانچہ وہ بے سدھ ہو گئے۔ اب اس نے ان کو اٹھا کر کسی دیرانے میں پھینک دیا۔ اللہ کی شان کہ وہاں ایک سانپ تھا، اس سانپ نے ان کو کاث لیا۔ اب افیون کی برودت (خندک) اور سانپ کے کٹنے کی حرارت مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آگئے اور اپنے گھر چلے گئے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دشمنوں سے ایسے حفاظت فرمادیتے ہیں۔

### (۱۰).....اخروی نجات:

تقویٰ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اخروی نجات عطا فرمادیتے ہیں۔

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ۸۲)

[وہ جو آخرت کا گھر ہے اسے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور نیک انجام تو متqi لوگوں کے واسطے ہی ہے]

سینے! متqi آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟.... دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، اس کے اوپر سے سب کو گزرنा ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے

ہیں:

﴿وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (مریم: ۲۱)

[جو بھی تم میں سے ہے اس کو اس کے اوپر سے گزرنा ہے]

﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مُقْضِيًّا﴾ (مریم: ۲۷)

[یہ تیرے رب کے نزدیک حتیٰ اور فیصلہ شدہ بات ہے]

﴿ثُمَّ نَجَّحَى الَّذِينَ آتَقُوا أَوْ نَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئْشًا﴾ (مریم: ۲۸)

[پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو ملتی ہوں گے اور جو ظالم گنہگار ہوں گے ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے]

تو پل صراط سے کون کامیاب ہو کر گزرے گا؟... ملتی بندہ کامیاب ہو کر گزرے گا۔

## (۱۱) ... فتح برکات:

ملتی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فتح برکات عطا فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سینے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْاَنَ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْنُوا وَآتَقُوا﴾

[اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے]

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الاعراف: ۹۶)

[تو ہم یقیناً آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے]

انسان دو چیزوں کا نام ہے: ایک جسم اور دوسرا روح، جسم مٹی سے بنتا اور اس کی اکثر ضروریات اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر:

- پانی مٹی سے نکلا ہے۔

- ہمارے بس کی فصل مٹی سے نکلی ہے۔

- ہماری غذاوں کی فصلیں مٹی سے نکلی ہیں۔

- ہمارے پھل اور میوے مٹی سے اگتے ہیں۔

- ہمارے مکان جن چیزوں سے بنتے ہیں ان سب چیزوں کی کامیں مٹی میں ہیں  
تو انسان کی جسمانی ضروریات مٹی میں رکھ دی گئی ہیں۔

دوسری چیز روح ہے۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، اس عالمِ امر کی  
چیز کی غذا اور پر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا  
کہ ”ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں“۔  
گویا زمین سے وہ برکتیں دیتے جو تمہاری جسمانی غذا بنتیں اور آسمان سے وہ نور  
برساتے جو تمہاری روحانی غذا بنتی۔

### برکت کا فقدان:

اگر غور کیا جائے تو پڑھ چلے گا کہ

☆ آج رزق کی کمی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے گھر کے جتنے بندے ہیں وہ سب کما  
رہے ہیں لیکن خرچ پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔

☆ دوائی کیلئے روز ڈاکٹر کے پاس بوگل جاتی ہے اور صحت پھر بھی نہیں ملتی۔ کمی  
لوگ تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، صحت پھر بھی نہیں ملتی، برکت  
نکل گئی ہے۔ آج اٹھارہ سال کا نوجوان کہتا ہے: حضرت! پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے،  
بیٹھا ہوا، اٹھتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندر ہرا آ جاتا ہے۔ باکیس سال کا نوجوان  
کہتا ہے: حضرت! مجھے لو بیک پین (کمر کے نچلے حصے میں درد) ہونا شروع ہو گئی  
ہے۔ یہ کیسی جوانی ہے؟..... اگر باکیس سال کی عمر میں اس کو ریڑھ کی ہڈی میں  
دردیں ہیں تو پھر بڑھاپے میں کیا ہو گا۔

☆ وقت ہے برکت نہیں۔ چنانچہ سارا دن یہ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کروں، یہ کام بھی کروں، لیکن شام کو دیکھتے ہیں تو کوئی کام بھی سمٹا ہو نہیں ہوتا۔

☆ حافظہ تیز ہے برکت نہیں۔ جو یاد کرتے ہیں، وہ تھوڑی دری کے لیے یا درہتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ طلب آکر کہتے ہیں، حضرت اسقی یا دینیں رہتا۔ بھی یہ یاد نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ برکت نہیں۔۔۔ جب ہر چیز سے برکت انٹھ گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکت نہیں رہی، یہ برکت نہ ہونے کی وجہ انسان کی کوتا ہیاں میں۔

ایک بزرگ سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان! آپ اکثر ناتے رہتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، تو کبھی کوئی چیز عملی طور پر بھی دکھائیں تاکہ مجھے سمجھ میں آ سکے کہ یہ برکت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بھل کے گیز رکے پاس گئے اور اس سے کہا: بینا! یہ دیکھو! تمہاری عمر اب تمیں سال ہو چکی ہے اور میں نے اس گیز رکو تمہاری پیدائش سے پہلے لگوایا تھا، اتنے عرصے میں مجھے اس کی معلوم ہوا کہ نقصان نہ ہونا بھی رزق کی برکت میں شامل ہے۔

زندگی میں برکت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔۔۔ ایک تو یہ کہ بندے کی عمر بھی ہو جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی صحت دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بڑھا پا کتنا خراب ہوتا ہے۔

### (۲).....اعطاے قبولیت:

اللہ تعالیٰ متقی بندے کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے

ہیں:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدہ: ۲۷)

[بے شک اللہ تعالیٰ متqi بندوں کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں]  
اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ متqi بندوں کو ہی قبولیت ملتی ہے۔

### فقہ حنفی کی قبولیت اور اس کا راز:

امت میں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قبولیت عامہ عطا فرمادی تھی۔ دنیا کے اکثر علاقوں کے لوگ آج ان کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں۔

..... پاکستان میں فقہ حنفی،  
..... افغانستان میں فقہ حنفی،  
..... بندوستان میں فقہ حنفی،  
..... ازبکستان میں فقہ حنفی،  
..... تاجکستان میں فقہ حنفی،  
..... قزاقستان میں فقہ حنفی،  
..... تاتارستان میں فقہ حنفی،  
..... بھکپرستان میں فقہ حنفی،  
..... ماکسکو اور لینن گراڈ تک مسلمانوں کے سب علاقوں میں فقہ حنفی،  
اس سے ذرا آگے چلے جائیے،  
..... بوسنیا کے اندر فقہ حنفی،  
..... پھر اور آگے چلے جائیے۔  
..... ترکی کے اندر فقہ حنفی،  
..... شام کے اندر فقہ حنفی،

..... عراق کے سنی مسلمانوں کے اندر فقہ حنفی، اس کے علاوہ،  
 ..... بھنگہ دلیش کے اندر فقہ حنفی،  
 ..... چائے میں مسلمانوں کے سارے علاقوں میں فقہ حنفی،  
 اللہ اکبر!! ..... دنیا کا کتنا بڑا اعلاقہ ہے جس پر فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ  
 ہیں۔ بلکہ ایک نرے کی بات بتاؤں۔ مجھے کسی ایرپورٹ پر سودان کے ایک بج  
 ملے۔ کہنے لگے کہ میں وہاں پر چیف جسٹس ہوں۔ ان کے ساتھ باقی ہوتی رہیں۔  
 پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں کس فقہ پر عمل ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ”هم  
 اعمال میں تو ماکی ہیں لیکن ہماری عدالتوں میں فقہ حنفی راجح ہے“ میں نے پوچھا، یہ  
 فرق کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے:  
 ”عدالت کے معاملے میں فقہ حنفی جتنی کامل ہے اتنا کمال کسی اور فقہ میں نہیں  
 ہے“ ماشاء اللہ  
 فقہ کی پر عمل کرنے والے بھی اپنی عدالتوں میں فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ  
 قبولیت عامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمادی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امام ابو  
 یوسف صلی اللہ علیہ و آله و سلم آپ کے شاگرد بن گئے تھے، جس کی وجہ سے فقہ حنفی کی ترویج ہوئی۔  
 نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں دیوار  
 چین ڈھونڈنے کی مہم شروع ہوئی تو اس نے علماء کی جماعت بھیجی کہ دیوار چین کا پہنچ  
 کرو! انہوں نے چین کا سفر کیا۔ وہاں امام ابو یوسف صلی اللہ علیہ و آله و سلم بالکل نہیں گئے تھے۔ وہ  
 فرماتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں ہمارے ملک کا کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا،  
 وہاں کے لوگ بھی فقہ حنفی پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر!! یہ خدائی قبولیت تھی۔  
 امام اعظم ابو حیفہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی اس قبولیت کا راز ان کے تقویٰ میں پوشیدہ تھا۔ مجھے  
 تین شخصیتوں سے والہانہ محبت ہے۔

..... مجھے سب صحابہؓ سے محبت ہے لیکن سید ناصدیقؑ اکبرؓ سے انوکھی محبت ہے۔

..... سب ائمہ کی عظمت میرے دل میں ہے مگر امام عظیمؑ سے کچھ انوکھی محبت ہے۔

..... سب اکابرین علمائے دیوبند سے محبت ہے لیکن قاسم نانوتیؒؒ سے کچھ انوکھی محبت ہے۔

میں نے ایک مرتبہ بڑا غور کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ ان سب حضرات کے اندر تقویٰ کی انتہا تھی۔ شاید ان کی زندگیوں کا وہ تقویٰ ہی ہے جس نے عاجز کے دل کو اتنا متاثر کر دیا ہے۔

”چنانچہ اگر میں آج یہ قسم کھاؤں کہ مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر ان تینوں سے محبت ہے تو میں حانت نہیں بنوں گا۔“

امام عظیم ابوحنیفہؒ کا تقویٰ بے مثال تھا، آپ بہت ہی محتاط تھے۔ اس امت کو تجارت یا تو صدیقؑ اکبرؓ نے سکھائی یا پھر ابوحنیفہؒ نے سکھائی۔ امام عظیمؒ کے تقویٰ کے کچھ بھول آپ کے دامن میں بھی ڈالتا چلوں۔

آپ کی کپڑے کی دکان تھی، ایک مرتبہ ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا: نعمان! کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا: آپ دیکھنے میں رہے کہ آسمان پر بادل ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اگر آسمان پر بادل ہیں تو پھر آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ فرمایا: میری کپڑے کی دکان ہے۔ جب آسمان پر بادل ہوں تو لائٹ پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے اس لیے دکان بند کر دی کہ میرا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت کپڑا بسمجھ کرنہ خرید لے اللہ اکبر!! آپ اتنا دھوکا بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔

## بخاری شریف کی قبولیت کا راز:

امام بخاری صلی اللہ علیہ وسالہ و علی آنکھیں کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عطا فرمائی وہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے تھی، ورنہ حدیث پاک کی کتب میں اور بھی بہت ساری کتب ایسی ہیں جن کا مقام صحت حدیث میں بہت اونچا ہے، مگر جو قبولیت اللہ رب العزت نے صحیح البخاری کو عطا فرمائی وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔

## منہ توڑ جواب:

ایک صاحب میرے پاس آئے۔ یہ ان میں سے تھے جو کسی کی نہیں۔ نے مجھے کہنے لگے کہ آپ لکھے پڑھے بندے ہیں، آپ کیوں حنفی بنے پھرتے ہیں؟ میں نے کہا: کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسالہ و علی آنکھیں کو صرف سترہ حدیثیں یاد تھیں۔ میں نے کہا: اچھا! پہلے تو میں تھا مضبوط حنفی اور اب یہ سن کر بن گیا ہوں اضبط حنفی، وہ کہنے لگے: کیوں؟ میں نے کہا: ”اب آپ جھلانہیں سکتے۔ امام اعظم“ نے اپنی زندگی میں چھ لاکھ مسائل کے جوابات اپنے شاگردوں سے لکھوائے۔ میں اس شخص کو اپنا امام کیوں نہ مانوں جس نے سترہ حدیثوں سے چھ لاکھ مسائل کے جواب نکالے؟

پھر وہ بات کا رخداد لئے گئے۔ کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا: کریں کہنے لگے: پھر آپ کوفہ نہ پہنچ جانا..... کیوں کہ میں اکثر اپنے ائمہ کی باتیں بتاتا ہوں۔ میں نے الایمی جواب دیتے ہوئے کہا: جی آپ بات کریں، مگر آپ بھی بخارا نہ پہنچ جانا۔ اگر ہم کوفہ پہنچتے ہیں تو تم بھی تو بخارا پہنچ جاتے ہو۔

## قرآن مجید کی خدمت کا صلہ:

امام العلما والصلحاء مولانا احمد علی لاہوری صلی اللہ علیہ وسلم سکھ گھرانے سے تھے۔ آپ ایمان لے آئے اور دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ حضرت شیخ الہند صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دورہ حدیث کر لیا۔ وہاں ان کی برادری اور خاندان کے لوگ نہیں تھے۔ بہر حال اللہ کے کسی مقبول بندے نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری حالات بھی سنوار دیے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب شادی کے بعد گھر میں روئی نہیں ملا کرتی تھی اور آج وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں اور سرگودھا کے کلیار، جو بڑے زمیندار ہیں، ان کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں۔

میں نے اپنے حضرت<sup>ؐ</sup> سے یہ واقعہ منا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے خلفاء میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضرت! آگے کیا معاملہ بننا؟ فرمائے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد علی! تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟... حضرت<sup>ؐ</sup> کے اوپر خوف خدا غائب رہتا تھا اور آپ کی طبیعت کیش الرکاء تھی، آنکھوں سے اکثر آنسو ٹکتے رہتے تھے۔

جیسے سیدنا عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ ان کے بھی اتنے آنسو ٹکتے تھے کہ ان کے رخساروں پر آنسووں کی وجہ سے نشان بن گئے تھے۔ بالکل حضرت لاہوری صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی... فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ احمد علی! تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو میں یہ سن کر اور ڈر گیا۔ میں نے پڑھا تھا:

من نوقش فی الحساب فقد عذب

[ جس سے نقش شروع ہو گئی اس کو عذاب دیا جائے گا ]

لہذا میں اور ہبڑا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا: احمد علی! تو اور ذرہ ہے، آج تو تیرے خوش ہونے کا مقام ہے، تو نے اتنی اچھی زندگی گزاری، قرآن کی اتنی خدمت کی کہ میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا، وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی میں نے بخش دیا۔

### قرب خداوندی کا سبب:

متقی بندہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی مقبول اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی مقبول۔ کیا عالم کیا عوام، کیا چھوٹے کیا بڑے، جسے دیکھواں کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ لوگ اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی وجہ سے قبولیت ہے۔  
حدیث قدسی میں ہے کہ.....

يَتَقْرَبُ عَبْدٌ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُجْهُهُ

[میرا بندہ نظری عبادت کے ذریعے میرا قرب پالتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں]

پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو جبرائیل مسیح کو بلا کر کہتا ہوں، جبرائیل! میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں چنانچہ جبرائیل ﷺ آسمان کے فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کرسارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبرائیل ﷺ میں پر آتے ہیں اور ایسی آواز لگاتے ہیں جس کو لوگوں کے کان نہیں سنتے بلکہ ان کے دل سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں: اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ

لَمْ يُؤْضَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

(پھر اس کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ دی جاتی ہے)  
وہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی منگل بنادیتے ہیں۔ یہ سب  
کچھ تقویٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔

### احسن القصص اور اس کے اسرار اور موز:

جس جگہ پر متقیٰ لوگوں کا اپنا کوئی نہیں ہوتا وہاں اندہ، ان کا اپنا ہوتا ہے۔ جب  
سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بھائیوں نے کیا معاملہ کیا؟ وہ ان کو  
کنویں میں ڈال کر چلے گئے۔ جب نکلا گیا تو ان کو بیچا گیا۔ قیمت کیا تھی؟

﴿وَشَرُوهُ بِشَمْنٍ بَخْسٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةً﴾

[وہ چند کھونٹے سکوں کے عوض بیچے گئے]

واہ میرے مولا! اب دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر  
ویسے ہی معصومیت ہوتی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن تو ویسے ہی بے مثال  
تھا۔ اتنا حسن تھا مگر قیمت کیا تھی؟ چند کھونٹے سکے۔ یہاں سے ایک نکتہ ملا کہ جو  
نوجوان حسن ظاہر کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ چند کھونٹے سکوں کی متاع کے پیچھے زندگی  
بر باد کر رہے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا، وہاں ایک اور تماشا بنا۔ عزیز مصر کی  
بیوی کی نیت بد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نُفُسِهِ﴾ (یوسف ۲۳)

اب یہاں ایک نکتہ مجھیے کہ اس کلام کو مختصر کرنے کا بھی طریقہ تھا۔ یوں کہا جاسکتا  
تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو یوں کہا: تو پندرہ لفظوں کی بجائے پانچ لفظوں میں  
بات ہو جاتی: مگر نہیں، حالانکہ کلام پاک میں اختصار ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا  
جاتا ہے، مگر اس مقام پر معاملہ الٹ نظر آتا ہے، کلام کو مختصر کرنے کی بجائے طویل کلام

کو پسند کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام نہیں فرمانا چاہتے تھے، جس سے کسی کی غیبت ہوتی کیونکہ اس نے غیبت کو ناپسند کیا ہے، اسے مومنوں پر حرام اور دیا۔ اس لیے بجائے نام لے کر بات کرنے کے کہ اس سے مختصر کلام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَرَأَوْذْنَةُ الْبَيْنَ هُوَ فِي بَيْنِهَا عَنْ تَفْسِيْلِهَا معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی کسی کے بارے میں گفتگو کریں تو نام لے کر بات کرنے کی بجائے ہمیں بھی اسی طرح تحریڈ پر سن کی بات کرنی چاہیے، یوں ہم بھی غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے۔

اب دیکھیے! وہ غلام تھے، مالک نے کام کے لیے کمرے میں بلایا

### وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابُ (اور دروازے بند کر دیے)

ابواب کی تفسیر مختلف مفسرین نے مختلف لکھی ہے، بعض نے کہا کہ جی کمرے کے اندر کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر بھی کمرہ تھا، اس طرح کئی کمروں میں بلایا۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کمرے کے ایک سے زیادہ دروازے بھی ہوتے ہیں، ایک دروازہ کسی صحن میں نکلتا ہے تو دوسرا دروازہ کسی کمرے میں نکلتا ہے، تیسرا دروازہ کسی اور طرف کو نکلتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑکیوں کو بھی دروازہ ہی شمار رہ لیا گیا ہو۔ تو ایک کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کے بند کرنے کو بھی ابواب کہا گیا، بہر حال جو صورت بھی تھی، دروازے بند کر دیے گئے، پھر اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا اور کہا:

﴿قَالَتْ هِيَتْ لَكُ﴾ (یوسف: ۲۳)

تو انہوں نے فوراً جواب میں کیا فرمایا۔

**قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ**

معاذ اللہ یہ فقرہ یاد کر لیجیے! جب بھی کبھی آپ کے سامنے گناہ کا موقع پیش ہو، اس وقت اگر آپ یہ دو الفاظ زبان سے کہہ دیں معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے

بھی سیدنا یوسف علیہم کو بچا لیا تھا۔ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ان الفاظ کو یاد کر لجئے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو، کہہ دیا کریں معاذ اللہ، معاذ اللہ اس طرح بندہ التدرب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ آگے کیا ہوا؟..... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا هُمْ ﴾ (یوسف: ۲۳)

[اور تحقیق اس عورت نے بھی ارادہ کیا اور انہوں نے بھی ارادہ کیا]

اب یہاں پر کچھ لوگوں کوشہ پیدا ہوا۔ المرء یقیس علی نفسہ (بندہ دوسروں کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے) ہمارا تو یہ حال کہ ہمیں کہیں سے بھی گناہ کی دعوت ملے تو گناہ کے لیے ہماری نیت بن جاتی ہے، اسی وقت پھسل جاتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے بھی ارادہ کیا اور آگے سے یوسف علیہم نے بھی ارادہ کیا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں "هم" کا لفظ ایک ہی ہے مگر ایک نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا اور دوسرے نے ہاتھ واپس دھکلنے کا ارادہ کیا۔ ایک نے گناہ کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کیا اور دوسرے نے اسے اپنے سے پچھے ہٹانے کا ارادہ کیا... کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپسند ہو تو وہ آرمنا بھی چاہے تو دوسرا بندہ اسے پچھے دھکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ارادہ اس نے بھی کیا اور ارادہ اس نے بھی کیا، لفظ تو ارادے کا لگا مگر ارادہ اپنی اپنی شان کے مطابق تھا۔ زیخانے ارادہ کیا تھا، گناہ کرنے کا اور سیدنا یوسف علیہم نے ارادہ کیا تھا اس کو پچھے دھکلنے کا سیدنا یوسف علیہم کا گناہ کا ارادہ نہیں تھا۔ ورنہ لوں کے بھید جانے والے پروردگار گواہی نہ دیتے کہ:

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (یوسف: ۲۳)

اس کی دلیل بھی قرآن عظیم الشان سے کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضًا، اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

**كَذِلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفُحْشَاءَ (یوسف: ۲۳)**

[اسی طرح ہم نے اسے بچ لیا، سوء سے اور فحشاء سے]

یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، سوء اور فحشاء۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سوء کا لفظ غیر عورت کو باتھنے کا نام ہے اس کا بوس رینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا بوس و کنار کے لیے سوء کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور زنا کے لیے فحشاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ انہوں نے جوارا وہ کیا تھا، اس وقت اگر نیت میں میل ہوتی تو پھر سوء سے کیسے بچ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں کہ ہم نے اس کو بچایا سوء سے بھی اور فحشاء سے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے دفاع کا ارادہ کیا اور زلیخا نے زنا کا ارادہ کیا۔

اس کی ایک اور ولیل سنیے! سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ کا نام سننے ہی فوراً دروازے کی طرف بھاگے، سجان اللہ، یہ فراست مومنا نہ ہے۔ اگر وہیں کھڑے ہو کر الجھتے رہتے اور ان کا تمیض پھٹتا تو کس سائیڈ سے پھٹتا؟ سامنے سے، اس طرح الزام ان کے اوپر آ جاتا۔ یہ فراست مومنا نہ تھی کہ آپ دروازے کی طرف بھاگے، پھر اس نے پیچے سے کپڑا تو کپڑا کدھر سے پھٹا؟ پیچے سے پھٹا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچے سے گواہی دلو دی، اللہ تعالیٰ یوں مہربانی فرماتے ہیں کہ متقی بندے پر جب اس طرح کی بات کوئی آتی ہے تو وہ معصوم پیچے جو ضابطہ قدرت کی وجہ سے نہیں بولا کرتے۔ میرے پروردگار ان متقی بندوں کی خاطر ضابطے بدلت کر ان کو قوت گویا تی عطا فرمادیا کرتے ہیں اور وہ ان کی پاک دامنی کی گواہی دے دیا کرتے ہیں۔

پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں سے نکال کر تخت عطا کر دیا۔ تھٹ آیا، اس دوران ان کے بھائی بڑے پریشان ہوئے۔ ایک

مرتبہ انہوں نے اپنے بھائی بنیا میں کو ایک حیلے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دوسرا مرتبہ بھائی آئے یہ ساری روادو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ سیدنا یوسف ﷺ پر ایک ایسا وقت آیا جب انہوں نے اپنے آپ کو بے سہارا پایا، ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ والدو یہے ہی جدا تھے۔ بھائیوں نے یہ حال کر دیا۔ جن کے ہاں غلام بنے اس عورت نے ہی جیل بھجوا دیا۔ تو ان کا اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے سہارے ثوٹ گئے۔ جب انسان دنیا میں ہر طرف سے بے سہارا ہوتا ہے تب اس کا سہارا پر وردا گر ہوتا ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا گیا: اے میرے محبوب ﷺ! آپ کے بھائی یوسف ﷺ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ بھی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے ہیں، اس کا سہارا بھی ہم بنے تھے اور آپ کا سہارا بھی ہم بنیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سہارا بنے تو پروردگار نے تخت بھی عطا فرمادیا۔ آج لوگوں کو تخت کے لیے کثرت چاہیے، تائید چاہیے، لوگ چاہئیں۔ برادری چاہیے۔ قبیلہ چاہیے، شہرت چاہیے، تب جا کر کہیں چھوٹی سی مبری ہاتھ آتی ہے۔ اس لیے کہ اصل منبر تو یہ منبر رسول ہے۔

اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف ﷺ کو تخت عطا فرمادیتے ہیں۔ بھائی آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں۔

**يَا إِيَّاهَا الْعَزِيزُ (اے عزیز مصر!)**

**مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ** (ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ وستی نے بے حال کر دیا)

**وَجَنَّنَا بِبَضَاعَةٍ مُّزْجَاهٍ** (ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں)

**فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ** (ہمیں وزن پورا دے دے!)

**وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا** (اور ہم پر صدقہ و خیرات کر دے!)

**إِنَّ اللَّهَ يَعْزِزُ الْمُتَصَدِّقِينَ** (بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے)

جب بھائیوں نے آکر بھیک مانگی، سائل کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پر دو!  
وَتَصَدِّقُ عَلَيْنَا (ہم پر صدقہ خیرات کر دو)۔ جب بھائیوں نے آکر بھیک مانگی تو  
حضرت یوسف ﷺ نے پوچھا:  
**مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ** (تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟)  
یہ سن کر بھائی ہکابکارہ گئے۔ کہنے لگے۔  
ءَأَنْتَ لَا تَرْكُمْ يُوسُفَ (کیا آپ یوسف ہیں؟)  
فَالْآنَ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي  
(فرمایا: ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیا میں ہے)  
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا (تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا)  
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقَ وَيَصْبِرُ  
(بے شک وہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے)  
**فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ**  
(پس اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے)  
(یوسف: ۹۰)

چنانچہ جو بندہ بھی سیدنا یوسف ﷺ کی طرح تقویٰ کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ  
اسے عرش پر بٹھائیں گے اور جوان کے بھائیوں کی طرح گناہوں کی زندگی  
گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے سائل بنا کر فرش پر کھڑا کر دیں گے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ  
کی مدد و سوت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے۔

آج امت بے سہارا ہے مگر.....

آج ایسی وقت ہے کہ امت اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہی ہے پہلے بھی  
یہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْسَ الرُّسُلَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قُدْرَةٌ بُوَا جَاءَهُمْ نَصْرًا نَّا ﴾

[ حتیٰ کہ جب رسول بھی نا امید ہونے لگے اور ان کا یہ گمان تھا کہ اب ان کو جھٹلا دیا گیا، تب ان پر ہماری مدد آئی ] ( یوسف: ۱۱۰ )

کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسے پوائنٹ پر پہنچا دیتے ہیں جہاں چاروں طرف اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا

﴿ حَتَّىٰ صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ﴾ (التوبه: ١١٨)

[ حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود ان پر نگہ ہو جاتی ہے ]

اور بندے کا گمان کیا ہوتا ہے؟

وَظَنُوا أَنَّ لَا مَلْجَأٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (الْتَّوْبَةِ: ٩٨)

[وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی بجا اور ماوی نہیں ہے ]

اس گلے رپنچ کر اللہ کی مدد آتی ہے۔

ہمیں بھی ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنی زندگی سے گناہوں کو سو فیصد ختم کر کے اپنے رب سے صلح کر لینی چاہیے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کا وزن ہمارے پلٹرے میں آجائے گا اور ہمارا پلٹر اپورے جہان سے حجک جائے گا۔

آج اس کی بے حد ضرورت ہے، اخباروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، جی ذرا دو تین اخبار میں لے آنا، یوں اخباری جمعے پڑھاتے ہیں۔ کیا قوم کی اصلاح ہو رہی ہے!!!؟ منبر رسول پر بیٹھ کر اخباری جمعے!!!.... فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں، ہم بڑی اصلاح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے صدر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نکال ہی نہ دے۔

عزیز طلباء! ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امامت کو ملامت نہ بنانا۔ جب ہم تقویٰ کو چھوڑ دیتے تو پھر امامت کو ملامت بنا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آج دلوں میں یہ عہد کیجیے کہ ہم آئندہ شریعت پر اختیار کے ساتھ عمل کریں گے اور تقویٰ کی زندگی گزاریں گے۔

### احتیاط تو یہ بھی ہے مگر.....

ویسے ہم دنیا کے معاملے میں بہت محتاط ہیں مثال کے طور پر:  
 ایئرپورٹ پر آٹھ بجے جانا ہو تو بیوی سے کہتے ہیں جلدی تیار ہو جانا، جانا تو آٹھ بجے ہے لیکن احتیط ہم پونے آٹھ بجے وہاں پہنچ جائیں گے۔  
 انترویو کے لیے چھ بجے جانا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے جانا تو تھا چھ بجے مگر انترویو (احتیاطاً) میں دس منٹ پہلے پہنچ گیا۔

مہمن بلاتے ہیں پندرہ اور بیوی سے کہتے ہیں To be on the safe side  
 (احتیط) میں آدمیوں کا کھانا بنادینا۔

یعنی ہم دنیا کے معاملے میں بڑے محتاط ہے۔ یہ To be on the safe side کے انفاظ کو اگر قرآنی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ متقی بندہ تمیش رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ گناہ کا Risk (رسک) ہی نہیں لیتا۔

### تقویٰ کا دائرہ کار:

کچھ صوفیوں کو دیکھا کہ وہ کھانے پینے میں بڑا تقویٰ اختیار کرتے ہیں مگر یہ دین کے معاملات میں کچھ بھی نہیں ہوتے، بیوی کو گھر میں ستایا ہوا ہوتا ہے۔ نہ اس سے بنتی ہے، نہ اس سے بنتی ہے۔ یہ کیا تصوف ہے؟۔ تقویٰ یہ نہیں ہوتا بلکہ

تقویٰ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، فقط بازار کی چیزیں کھانی چھوڑ دینے سے بندہ مقنی نہیں بن جاتا بلکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات، معاشرت بلکہ ہر چیز میں انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ آئیے قرآن سے پوچھیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلُواُ وَجُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ  
الْبِرُّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكَةَ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى  
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذُوِّي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَأَنَّ السَّبِيلَ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضُّرَّاءِ وَجِينِ  
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۷۱)

[تسلیک یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ تسلیک یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، اور نبیوں پر ایمان لا گیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتے داروں، تیمیوں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردن چھڑانے والوں پر خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور وعدے جو کر لیے پورے کریں اور سختی اور تکلیف کے وقت اور معركہ کا رزار کے وقت ثابت قدم رہیں، یہی لوگ ہیں جو پچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں]

دیکھا یہ ہیں مقنی بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ بھری زندگی نصیب فرمادے۔ آمین

دنیا کی چیک پوسٹ میں پوشیدہ ایک سبق:

ہم لوگ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کر کہ کرمہ جار ہے تھے۔ وہاں

کام کرنے والے ہمارے ایک دوست بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھ کر جب چیک پوسٹ آنے لگی تو خوف کی وجہ سے اس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں نے پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: حضرت! میں ورقہ بنو انا بھول گیا ہوں۔ یہ وہ ورقہ ہوتا ہے جو عمرہ کرنے کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ میں احرام باندھ کر آپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا تھا اور میرا دھیان ہی ادھرنہ گیا اور اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ روکے گا اور ورقہ دیکھے گا، اگر اس نے روک لیا تو مجھے واپس بھیج دے گا۔ عمرہ تو میں بعد میں بھی کر لوں گا مگر میں آپ کے ہمراہ یہ کر عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اب اس کا ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا۔ جیسے جیسے چیک پوسٹ والامقام قریب آتا گیا، اس بیچارے کے پیسے چھوٹتے گئے۔ کچھ پڑھ بھی رہا تھا اور خوف زدہ بھی تھا، جن کے پاس دیزے تھے وہ سب مزے میں تھے، مگر اس کی کیفیت عجیب تھی۔ دور سے ہی اس کی نظر شرط پر تھی کہ کوئی بھی یا نہیں۔ اللہ کی شان کر ایک کی بجائے دو کھڑے تھے۔

جب گاڑی ان کے قریب پہنچی تو ڈرانیور نے گاڑی آہستہ کر دی۔ پولیس والے نے اشارہ کیا امہل (روکو) جیسے ہی اس نے رکنے کا اشارہ کیا تو خوف کی وجہ سے اس کی زبان سے ”اوہ“ کا لفظ نکلا کہ مجھے روک لیا گیا۔ لیکن اللہ کی شان کہ جیسے ہی ڈرانیور نے گاڑی روکی اور پولیس والے نے ذرا قریب ہو کر دیکھا تو اس عاجز کا سین چہرہ سامنے تھا: وہ دیکھ کے کہنے لگا: یا۔۔۔ ہم نے بھی کہا: اللہ ای اللہ۔ جب ہم وہاں سے نکل گئے تو وہ بالکل فریش ہو گیا۔ میں نے اس وقت کہا: بھی! آج مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی۔ کہنے لگا: حضرت! کیا؟..... میں نے کہا قیامت کا دن ہو گا۔

اے ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کے رو بروپیش ہو رہے ہوں گے۔

﴿جِئْتُمُونَا فَرَادِيٌّ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً﴾ (الانعام: ۹۳)

اور ادھر بھی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہو گی۔ حق لینے والے لوگ بھی کھڑے ہوں

گے اور اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ کچھ قسمت والے ہوں گے جن کے پس نکیوں کے پرست ہوں گے، ان کو سیدھا جانے دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمادیا: حکم ہو گا ....

﴿ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ (الصفت: ۲۲)

[ان کو روک لیجیے ان سے سوال کیا جائے گا]

اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ حکم ہو گا، اس کو روک لیجئے، ہمارے نام کی روشنیاں کھا تا تھا اور ہمارے ہی حکموں کو چھپ چھپ کے توڑتا تھا،

﴿ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾

اس کو روک لیجیے یہ دیکھنے میں بڑا صوفی بنا پھرتا تھا مگر اپنے گھر کے ماحول کو جنم پنا رکھتا تھا، غصہ قابو میں نہیں آتا تھا، نہ بچوں پر شفقت نہ یہوی پر رحمت۔

﴿ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾

اس کو روک لیجئے۔ ہم نے اس کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، من پسند کے کھانے کھایا کرتا تھا، اس کے پاس سائل مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان کو جھز کیاں دے کر گھر سے بھیج دیا کرتا تھا۔

﴿ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾

آج ان سے سوال پوچھا جائے گا۔

آج ہمت کر لیجیے ارادے کر لیجیے اور اللہ سے مانگ لیجیے کہ اے اللہ! ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرمادیجیے تاکہ قیامت کے دن کی چیک پوسٹ سے ہم بچا دیے جائیں۔ جب تھی بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمُ الَّى الْجَنَّةِ زُمِراً ﴾ (الزمر: ۷۳)

ان کو جنت کا گیٹ دکھا دیا جائے گا کہ اے میرے مقی بندو! تم اتنی احتیاط سے  
میری شریعت پر عمل کرتے تھے، جاؤ! جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تم  
نے دنیا میں بہت ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب سیدھے جنت میں چلے جاؤ! جیسے  
ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے اسی وقت کہیں گے:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ﴾ (الفاطر: ۳۳)

[سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سب غم دور کر دیئے]

اللہ رب العزت ہمیں آج احتیاط کے ساتھ شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق  
عطافرمائے۔ (آمین ثم آمین)۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



عالم اسلام کے روحانی پیشوں محبوب العلماء والصلحاء

# حضرت مولانا پیر فضل القیام الحنفی شہری طبلہ

کی نئی کتاب

## گھریلوں بھرتوں سے نجات

• گھروں میں جھگڑوں کا ماحدوں کیوں رہتا ہے؟

• جھگڑوں کا حل کیا ہے؟

• پیار محبت کا ماحدوں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟

• اچھی معاشرت کے اسلامی اصول و ضوابط

• سنت نبوی کی برکات

• محبتیں باشیں، نفرتوں سے نجات پائیں

لپنے اہل خانہ اور احباب کو یہ کتاب پڑھنے کیلئے دیں

مکتبہ الفقیر ڈاکٹر 223 سنت پورہ ہنریل آباد  
+92-41-2618003

# حضرت مولانا پیر دو الفقار احمد نقشبندی ظلہ کی دیگر کتب

﴿ خطبات فقیر (تیرہ جلدیں) ﴾

﴿ مجالس فقیر (چھ جلدیں) ﴾

﴿ مکتوبات فقیر ﴾

﴿ حیات حبیب (سو انچ حیات) ﴾

﴿ عشق الہی ﴾

﴿ عشق رسول ﷺ ﴾

﴿ با ادب بانصیب ﴾

﴿ تصوف و سلوک ﴾

﴿ لاہور سے تاخاک بخارا و سرقد (سفرنامہ) ﴾

﴿ قرآن مجید کے ادبی اسرار و رموز ﴾

﴿ نماز کے اسرار و رموز ﴾

﴿ رہے سلامت تمہاری نسبت ﴾

﴿ موت کی تیاری ﴾

﴿ مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول ﴾

﴿ اولاد کی تربیت کے سنہری اصول ﴾

﴿ حیاء اور پاک داشتی ﴾

﴿ خواتین اسلام کے کارنامے ﴾

﴿ عمل سے زندگی بنتی ہے ﴾

﴿ دوائے دل ﴾

سکون دل

تنائے دل

گھر بیو جھگڑوں سے نجات

زلزلہ ..... مشاہدات و واقعات

ذرانم ہوتا یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے

پریشانیوں کا حل

دعا میں قبول شدنے کی وجہات

گناہوں سے توبہ کجھے

محسنین اسلام

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات

وظیفہ

پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں

شجرہ طیبہ

بے داغ جوانی

**LOVE FOR ALLAH**

**Wisdom For The Seeker**

**Be Courteous Be Blessed**

**Travelling Across Central Asia**

**Ocean Of Wisdom**

مکتبۃ الفقیر 223 سنت پورہ فیصل آباد

# مکتبہ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

- مسجد الفقیر الاسلامی ثوبہ روڈ، بائی پاس جھنگ  
دارالمطالعہ، نزد پرانی ٹینکی، حاصل پور 062-2442791
- ادارہ اسلامیات، ۱۹۰ اناکلی لاہور 7353255
- مکتبہ مجددیہ، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور 042-7231492
- مکتبہ سید احمد شہید ۱۰ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور 042-7228272
- مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور 041-7224228
- مکتبہ امدادیہ ٹیلبی ہسپتال روڈ ملتان 061-544965
- مکتبہ بیت العلم بنوری ناؤں کراچی 021-2018342
- مکتبہ الشیخ ۳/۴۵ بہادر آباد کراچی 0214935493
- دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی 021-2213768
- مکتبہ علیہ، دوکان نمبر ۲ اسلامی کتب مارکیٹ بنوری ناؤں کراچی 021-4918946
- مکتبہ حضرت مولانا ناصر والفقیر احمد محمد خلقہ العالی میں بازار، سڑائی نور گرگ PP 09261-350364
- حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ٹیپو مارکیٹ، مسجد اسماء بن زید، اسلام آباد 051-2288261
- جامعۃ الصالحات، محجوب سڑیت، ڈھونک مستقیم روڈ، پیرودھائی موڑ، پشاور روڈ، راولپنڈی 03009834893 ، 051-5462347

مکتبہ الفقیر 223 سنت پورہ فصل آباد